


ملفوظات

حضرت مولانا محمد الیاس

مؤلف حضرت مولانا محمد منظور علی رحمۃ اللہ

مدرسی کتبخانہ کراچی، پاکستان

www.islamicbookslibrary.wordpress.com



ملفوظات

حضرت مولانا محمد الیاس

* مؤلف حضرت مولانا محمد منظور نعماں

* مَدَنِي كُتُبْ خانہ کراچی

مَدَنِي منزل، آر ۹۹ سیکھر لے۔ ۱۶

گاٹشِنِ اسلام، بفرزوں، کراچی ۵۸۵۰۷

اسلامی جمہوریہ - پاکستان

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

دیباچہ

ملفوظات کا مرتب حصہ ا ملفوظات کی خدمت میں

مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا نام تو غالباً میں نے اپنی طالب علمی کے زمانے سے سنا تھا لیکن انکھوں سے دیکھنے کا اتفاق جہاں تک پار پڑتا ہے ہمیں رفعہ شاید رمضان ۱۴۲۷ھ میں ہوا۔ اس کے بعد چار پانچ سال تک بغیر قصد و طلب کے محض اتفاق طور پر غالباً کئی رفعہ زیارت و ملاقات کی نوبت آئی لیکن ان سرسری اور اتفاقی ملاقاتوں میں امیں اس سے زیادہ کچھ نہیں سمجھ سکا کہ مولانا ایک مخلص عالم دین ہیں پرانے طرز کے سید ہے اور نیک بزرگوں کا نمونہ ہیں اور زمانے کے تقاضوں اور اہم و تحقیقی ضرورتوں سے واقف نہ ہونے کے باوجود مسلمانوں کی دینی اصلاح کا صادر جذبہ اور سچی تڑپ اپنے اندر رکھتے ہیں۔

بہر حال ان ملاقاتوں میں نہ میں مولانا کی شخصیت میں متاثر ہوا اور نہ میں نے ان کی دینی دعوت و تحریک کی کوئی خاص اہمیت سمجھی بیہاں تک کہ غالباً شفہ ہمیں دین کے تقاضوں کو خوب سمجھنے والے ایک بڑے روشن دیماغ اور صاحب قلم عالم دین نے خود مولانا سے ملاقات کر کے اور ان کی دعوت و

(کتاب کے جُملہ حقوق بحق ناشر محفوظ)

مَدَنِ كُتُبِ خانہ کراچی

مَدَنِ منزل، آر ۹۹ سیکٹر ۱۶۔۱۔۱

گلشنِ اسلام، بفرزوں، کراچی ۷۵۸۵۰

اسلامی جمہوریہ - پاکستان

تحریک کے خاص حلقة عمل میوات جا کر تحریک کی عملی صورت اور اس کے اثرات^۱ نتائج کو خود دیکھ کے اپنی رائے اور اپنے تاثرات ایک مضمون میں لکھے۔ جہاں تک پار پڑتا ہے کم از کم موافق سطور کی نظر میں اس تحریک کی اہمیت سب سے پہلے اسی مضمون سے پیدا ہوئی۔

اس کے پچھے رنوں بعد (زلیقہ دہلی میں) مولانا کی زیارت اور ان کی تبلیغی جدوجہد سے براہ راست اور تفصیلی واقفیت حاصل کرنے ہی کی تیت سے دہلی کا ایک سفر فریق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی اور ایک دوسرے دینی دوست مولوی عبدالواحد صنایم بے کی معیت میں کیا۔ لیکن اتفاق کی بات کہ دہلی ہنچتے ہی میرے مکان سے فوری طلبی کا تاریخ لا اور میں ان رنوں رفیقوں کو چھوڑ کر مولانا سے ملے بغیر ہی واپس ہو گیا۔ میرے رنوں فیقوں نے اسی سفر میں مولانا سے پہلی اور تفصیلی ملاقات بھی کی اور میوات جا کر ان کے تبلیغی کام کے طرز اور ان کے اثرات و نتائج کا بھی مطالعہ کیا۔

مولانا سید ابوالحسن علی اپنی فطری سعادت اور دینی شخصیتوں سے خاص طبعی مناسبت کی وجہ سے اس پہلی ہی ملاقات میں مولانا کی شخصیت اور ان کے تبلیغی کام سے بہت زیادہ متاثر ہو کر واپس ہوئے، اور اپنے خطوط کے ذریعہ مجھے بھی متاثر اور مولانا کی طرف متوجہ کرنے کی انہوں نے کوشش کی۔ لیکن چونکہ میں مولانا کو کئی بار ریکھ چکا تھا اور متعدد ملاقاتوں میں ان کی باتیں بھی سن چکا تھا اور اپنی کم نگاہی ہی کی وجہ سے کچھ زیادہ متاثر ہو سکا تھا اس لئے مولانا علی کے ان خطوط کا بھی جگہ پر کوئی خاص اثر نہیں پڑ سکا۔ مان

اتنا ضرر ہوا کہ مولانا کی دعوت سے تفصیلی واقفیت حاصل کرنے کا جو داعیہ اور استیاق پہلے ہی پیدا ہو چکا تھا مولانا علی کے ان خطوط سے اس میں کچھ اضافہ ہو گیا۔

کچھ رنوں بعد میوات کے علاقہ میں ایک بڑے تبلیغی اجتماع کی تجویز ہوئی مجھے بھی طلب فرمایا گیا۔ اور میں اپنے ذاتی شوق سے شرکیں ہوا۔ مجھے اعتراف ہے کہ اس سفر کی مختلف صحبتوں میں مولانا کی باتیں سُننے اور میواتی قوم میں وسیع پیغام پر غیر معمولی دینی تغیر کے اثرات اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی وجہ سے مولانا کی شخصیت اور ان تبلیغی تحریک کو میں پہلے سے زیادہ وقیع سمجھنے لگا۔ لیکن میں پھر بھی اتنا متاثر نہیں ہوا کہ اپنے کو اس کام سے متعلق کرنے کا فیصلہ کر دیتا۔

آگے کی سرگزشت سنانے سے پہلے اپنا ایک حال سنادیں ایسا ضروری ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت مجدد الف ثانیؒ، حضرت شاہ ولی اللہؒ، حضرت سید احمد شہیدؒ، حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ، حضرت مولانا شید احمد گنگوہؒ، جیسے مشائخ اور ائمہ اسلوک و تصوف سے اگرچہ مجھے بڑی کھری عقیدت تھی اور اسلامی ہند کی یہ چند شخصیتیں میرے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھیں لیکن نفس تصوف کی طرف سے مجھے اطمینان رہتا۔ بلکہ طبیعت کو اس سے ایک درجہ کا تو خشن تھا اور زہن میں اس پر کچھ علمی اشکالات بھی تھے۔ سلطانؒ کے او اخر یا سلطانؒ کے او اول میں قضاقدار کے ایک فیصلہ نے میرے لئے ایک ایسی صورت پیدا کر دی کہ ایک صاحب ارشاد بزرگ (جن کوئی خاصاً خدا

اور اپنے یقین و اخلاص میں سے سمجھتا تھا) کی خدمت میں تقریباً ایک ہفتہ
بجھے قیام کرنا پڑا۔ — موقع کو غنیمت جان کر ایک دن یہ نے تصوف
اور اس کے خاص اعمال و اشغال کے متعلق اپنے خیالات عرض کئے، اپنی تسلی
یا شفیعی کے لئے نہیں بلکہ بزرگ طور گویا ان بزرگ کے حال اور خیال کی اصلاح کے
لئے۔ لیکن اللہ کے اس بندے نے عجیب طریقِ علاج اختیار کیا۔ تفصیل تو
بہت لمبی ہے اور اس کے ذکر کا یہ موقع بھی نہیں، بلکہ اجمالاً صرف نتیجہ سن لیجئے کہ
دو تین دن میں وہ سب اشکالات ختم ہو گئے اور معلوم ہوا کہ یہ سائے و ساویں
اور اغترافات خود اپنی ہی غلط فہمیوں کا نتیجہ تھے۔

یہ چند روز جوان بزرگ کی خدمت میں گزرے میری زندگی میں ایک موڑ
کی حیثیت رکھتے ہیں۔ — پھر جب میں ان بزرگ سے رخصت ہونے لگا تو
انہوں نے بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ بجھے تاکید فرمائی کہ حضرت دہلوی کے
یہاں تم زیارت جایا کرو اور ان سے ملتے رہا کرو۔ — یہ بزرگ حضرت مولانا
محمد الیاسؒ کو "حضرت دہلوی" ہی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا کہ
میں ان کی خدمت میں کئی بار حاضر ہوا ہوں اور میرے دل میں ان کا پورا
احترام ہے لیکن میں ان سے زیارت نہیں ہو سکا ہوں۔ — میری زبان
سے یہ سن کر ان بزرگ نے حضرت مولانا کے متعلق بہت ہی بلند کلمات
فرملے، جن کا عاصل غالباً یہ تھا کہ اللہ کا خاص تعلق بہت سے بندوں سے
بھی ہوتا ہے لیکن خاص انہیں تعلق بس کسی کسی کے ساتھ ہی ہوتا ہے
اور میرے خیال میں اس وقت حضرت دہلوی کے ساتھ اللہ کا تعلق غالباً عقیم گھٹے

میں چونکہ ان بزرگ سے بہت کچھ متاثر ہو چکا تھا اس لئے حضرت
مولانا محمد الیاسؒ کے متعلق ان کی زبان سے یہ کلمات سن کر میں نے ارادہ کر لیا کہ
یہاں سے اب انشاء اللہ رہی ہو کے اور مولانا کی زیارت کر کے ہی مکان واپس
جاوں گا۔ چنانچہ میں وہاں سے سید حادی گیا۔ حضرت مولانا ان دونوں سخت بیماریاں
تھے کئی دنوں سے غذا بھی نہیں ہوتی تھی۔ ضعف کا یہ عالم تھا کہ ذرا کھڑے
ہوتے تو انگلیں لرزنے لگتیں۔ میں جب حاضرِ خدمت ہوا اور سلام کے بعد مھاگو
کے لئے ہاتھ بڑھایا تو بچائے مصالح فرمانے کے بستر سے اٹھ کر میرے دو دنوں
ہاتھ پکڑ کے حضرت کھڑے ہو گئے۔ میں نے باصرار عرض کیا کہ آپ آرام درمائیں۔

آپ کی طبیعت ناساز ہے فرمایا۔

"پھر نہیں، بس تم ہی لوگوں کا بیمار ڈالا ہوا ہوں
تمہارا ہی ستایا ہوا ہوں، تم آجائو، دین کا کام کرنے
لگو، انشاء اللہ اچھا ہو جاؤں گا۔"

قصۂ خنصر، مولانا نے میرے ہاتھ اس وقت چھوڑے جب میں نے
وعدہ کر لیا کہ انشاء اللہ اؤں گا اور وقت دوں گا۔

جہاں تک یاد ہے اس وفع میں غالباً اپنے ایک شب دروز مولانا کی
خدمت میں رہا۔ اسی سخت بیماری اور اس درجہ کی کمزوری میں مولانا پر
دین کی نکر کا میں نہ جیسا غلبہ دیکھا اور دین کے ساتھ ان کے جس تعلق کا اندازہ
ہوا اس نے بجھے بہت متاثر کیا اور میں یہ طے کر کے واپس آیا کہ مولانا کو اللہ
تعالیٰ اس مرض سے صحّت دے تو میں ان کے کام میں شریک ہو کر کچھ وقت

ان کی خدمت میں گزاروں گا۔

اس مرض سے صحت کے بعد جادی الآخری ﷺ میں میوات میں ایک تبلیغی اجتماع طے ہوا۔ اطلاع ملنے پر یہ عاجز بھی دہنی پہنچ گیا۔ رفیقِ محترم مولانا علی بھی آگئے۔

اللہ تعالیٰ مولانا اقتسام الحسن صاحب کو جزاً یُخیر دے، غالباً انہوں نے ہی یہ تجویز کیا کہ ہم دونوں مولانا کے ساتھ ایک کار میں جائیں، مولانا کے نہایت مخلص محبت محمد شفیع صاحب قریشیؒ کی یہ کار تھی اور بہت چھپوئی قسم کی تھی۔ اس میں حضرت مولانا اور ہم دونوں کے سوا صرف ایک قریشی صاحب ہی اور تھے اور وہی کار چلانے والے تھے۔

کار نظم الدین سے روانہ ہوئی اور حضرت مولانا کے ارشادات و افادات کا سلسلہ شروع ہوا۔ تقوڑی ہی دیر کے بعد مجھے خیال ہوا کہ مولانا کی ۱۰۰ باتیں خود یاد رکھنے اور دوسروں تک پہنچانے کے لائق ہیں لہذا انہیں لکھ لیتا چاہیے۔ چنانچہ کار ہی میں جیب سے پسل کا غذہ نکالا اور خاص خاص باتوں کو نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ منزلِ مقصود تک پہنچنے تک یہ سلسلہ برابر جاری رہا۔ مولانا کے ملفوظات کی یہ پہلی قسط تھی جو میں نے اس سفر میں تلمبند کی۔ اس کا ایک حصہ رجب ﷺ کے الفرقان میں مولانا کی حیات بلکہ تن رستی ہی میں ان کی اجازت سے شائع ہوا۔ اور دوسرا حصہ کئی ہمینہ کے وقفہ سے رویین ﷺ کے الفرقان میں شائع ہوا۔ اس مجموعہ کی پہلی اور دوسری قسط ان ہی ملفوظات پر مشتمل ہے۔

میوات کے اس سفر سے قریباً ایک ہفتہ بعد مکث نواور کا نپور کے تبلیغی دورے میں بھی ایک ہفتہ حضرت مولانا کی ہماری نفیب ہی اس سفر میں بھی بعض ارشادات نوٹ کئے اور اس مجموعہ کی تیسری قسط ان ہی ملفوظات پر مشتمل ہے۔

اس کے کچھ عرصہ بعد مولانا ریض ہو کر صاحب فراش ہو گئے اور رجب ﷺ میں وفات پر اس مرض کی انتہا ہوئی۔

وَحْمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَةُ الْأَبْرَارِ الصَّالِحِينَ
وصال سے قریباً ۴ میونس پہلے ربیع الاول یا ربیع الثانی میں مرض کی شدت اور نزاکت کی اطلاع پا کر یہ عاجز حاضرِ خدمت ہوا۔ حسن الافق سے ان دنوں میرے وہ مخدوم اور محسن بزرگ بھی مولانا کی عیادت کے لئے تشریف لائے ہوئے تھے، جنہوں نے مجھے مولانا کی خدمت میں حاضری کی تاکید فرمائی تھی۔ جب وہ تشریف لے جانے لگے تو مجھے انگ بلکہ فرمایا۔

”مولوی صاحب! اور کام تو عمر بھر کرو گے، اس وقت جتنا ہو سکے ان کے پاس پڑے رہو، آج کل یہ بڑے سیال ہزاروں میل روز کی رفتار سے جائے ہیں۔“

ان کے اس ارشاد پر میں نے یہ طے کر لیا کہ مولانا کی بیماری میں اٹا اللہ ہیں رہوں گا۔ اور ہفتہ عشرہ کے بعد ر سالہ اور دفتر کی ضروریات دیکھ بھال کے لئے دو چاروں کے واسطے بڑی چلا جایا کروں گا۔ چنانچہ ہی

لہ اس زمان میں بر اقامہ بر بیلی میں ارتھاتا ہوا۔ اور رسالہ الفرقان دہی سے نکلتا ہوا۔ ۱۲

معمول رہا اور مجموعی طور پر غالباً درج مہینے سے کچھ زیادہ مولانا کے مرض الوفات میں میرا قیام رہا۔ جمادی الاخری ۱۳۷۴ھ کے سفر میوات اور رجب ۱۳۷۵ھ کے سفر کا ہنودہ کا پور کے ملفوظات کے سوا اس مجموعہ کے تمام ملفوظات حضرتؐ کے مرض الوفات ہی کے ہیں۔ — البته جو تھی قسط کے تمام ملفوظات مولانا ظفر احمد صاحب تعالیٰ کے مرتبہ کے ہوئے ہیں۔ مولانا موصوف حضرت مولانا کے آخری مرض میں پورا ایک مہینہ نظام الدین میں مولانا کے پانچ قیمتی رہے تھے۔ اور اہتمام سے حضرت کے ملفوظات قائم بند فرمائے تھے۔

مولانا کی اسریماری میں ان کے جن احوال و کیفیات کا مشاہدہ ہوا یہ واقعہ ہے کہ ان سے سلف کے ان بہت سے واقعات کا یقین ہو گیا جن کو تذکروں کی کتابوں میں پڑھا تھا میکن ان کی صحت پر اطمینان ہوتا۔

بہت سی پائیں جن کا مجھ ہیسا ذہنی بااغی قابلِ ذہن سکتا تھا مولانا میں ان باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر قابلِ ہوجانا پڑا۔ اس وقت کے اپنے تاثرات کا حاصل اپنے مقالہ "میری زندگی کے تجربے" میں لکھ چکا ہوں۔ اگرچہ شخصیت اور خصوصیات ایسی شخصیت کے قائم مقام کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی لیکن امید ہے کہ رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی کی مرتب کی ہوئی حضرت کی سوانح اور ملفوظات کے اس مختصر سے مجموعے کے مطالعے سے ناظرین کو مولانا مرحوم کی معرفت کسی روج میں لشاۃ اللہ حاصل ہو سکے گی۔

قابل لحاظ چند باتیں ۱۔ مولانا جب گفتگو فرماتے تھے تو یہ عاجز اس وقت صرف مختصر اشارات میں نوٹ کر لیا کرتا تھا، بعد میں کسی فرصت کی وقت

الفاظ و عبارات اپنی یاد را شدت سے لکھتا تھا اس نئے لفظوں میں بہت کچھ فرق کا امکان ہے۔ بلکہ بہت سے مقامات پر ناظرین کو سمجھانے کے خیال سے رانستہ بھی الفاظ میں کچھ تغیر کیا گیا ہے کیونکہ مولانا مرحوم کی علمی زبان اور مخصوص طرز ادا کو بسا اوقات اور تقریب رہنے والے خاص ہی تسمیہ سکتے ہیں۔

۲۔ اکثر اس اوتھا کار مولانا کا سلسلہ کلام جاری ہوتا تھا، لیکن میں اس وقت لکھنے کی طرف توجہ کرنا مناسب نہیں تھا اسکا اوتھا اور یہ خیال کر لیتا تھا کہ انشا اللہ بعد میں حافظہ سے لکھ لوں گا۔ لیکن یا نہیں آتا کہ پھر کبھی اس کی نوبت آئی ہو۔ اس نئے یہ واقعہ کے کاس عاجز نے یاد رکھنے اور لکھنے کے قابل حضرت کے جوار شادات سے، یہ ملفوظات جو اس چھوٹی سی کتاب میں سرتب کر کے پیش کر جائی ہیں، یہ شاید ان کا دسویں حصہ بھی نہیں ہیں۔

۳۔ حضرت مولانا نے مسلمانوں میں دینی زندگی اور ایمانی روح پیدا کرنے کی جو کوشش ایک خاص طرز پر شروع کی تھی اور جس میں آپ نے بالآخر اپنی جان کھیا دی، مولانا کا اصلی کارنامہ وہی دینی دعوت ہے اور الحمد للہ کہ مولانا مرحوم کے بعد بھی وہ سلسلہ کم از کم مقدار اور کمیت میں توسیعوں کے اضافہ اور ترقی کے ساتھ جاری ہے۔ البته دعوت کے اصول اور اس کی روح (ایمان اور احتساب) کے تحفظ کی طرف اس تحریک سے خاص تعلق رکھنے والوں کو زیادہ سے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سلسلہ میں بہت کچھ رہنمائی اور نشاندہی اس مجموعہ ملفوظات سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔

ارشادات حضرت مولانا محمد الیاسؒ

(قسط نمبر)

یہ قسط حضرت کی حیات میں بلکہ مرض الوفات
شروع ہونے سے بھی پہلے شائع ہو چکی ہے



۱۲
اور دراصل یہی اس کی اشاعت کا خاص مقصد ہے۔
وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهُدِي السَّبِيلَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ أَوَّلًا وَآخِرًا
محمد منظور عما فی الشَّعْنَةِ



۱ فرمایا۔۔۔ انبیاء علیهم السلام کی امتیوں کی عامالت یہ رہی ہے کہ جوں جوں زمانہ ثبوت سے ان کو بعد ہوتا تھا، دینی امور (عبادات وغیرہ) اپنی روح اور حقیقت سے خالی ہو کر ان کے باں محض "رسوم" کی جیشیت افتیار کر لیتے تھے۔ اور ان کی ادائیگی بس ایک پڑی ہوئی رسماں کے طور پر ہوتی تھی۔ اس مگر اپنی اور بے راہ روی کی اصلاح کے لئے پھر دوسرے پیغمبر مبعوث ہوتے تھے جو اس رسمی جیشیت کو منا کر امتیوں کو امور دین" کی اصلی حقیقتوں اور حقیقی روحِ شریعت سے آشنا کرتے تھے۔ سب سے آخر میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اس وقت کی جن قوموں کا تعلق کسی سماوی دین تھا، ان کی حالت بھی یہی تھی کہ ان کے پیغمبروں کی لائی ہوئی شریعت کا جو حصہ ان کے پاس باقی بھی تھا تو ان کی جیشیت بھی بس چندے بے روح رسوم کے مجموعہ کی تھی۔

ہونی چاہئے۔ پس صحیح نیت اور اخلاص اللہ چونکہ دین میں نہایت ضروری ہے بلکہ وہی سارے امور دین کی رو حیے اس لئے وہ بجد سہل ہے اور یہی "اخلاص اللہ چونکہ سارے سلوک" اور "طرق" کا حاصل ہے۔ اس لئے معلوم ہوا کہ سلوک بھی بہت آسان چیز ہے۔ مگر یاد رہنا چاہیے کہ ہر چیز اپنے اصول اور اپنے طریق سے سہل ہوتی ہے، غلط طریق سے تو آسان سے آسان کام بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ اب لوگوں کی غلطی یہ ہے کہ وہ اصول کی پابندی ہی کو مشکل سمجھتے ہیں اور اس سے گریز کرتے ہیں۔ حالانکہ دنیا میں کوئی معمولی سے معنوی کام بھی اصول کی پابندی اور مناسب طریق کا ر احتیار کئے بغیر انعام نہیں پاتا۔ جہاز کشتی، ریل، موٹر سب اصول ہی چلتے ہیں۔ حتیٰ کہ پہنچ یا روانی تک بھی اصول ہی سے پہنچتی ہے۔

۳ فرمایا — طریقت کی خاص غایت ہے اللہ تعالیٰ کے احکام را ادا مرکا مغرب طبعی اور نواہی کا مکروہ طبعی ہو جانا (یعنی ایسی کیفیت پیدا ہو جانا کہ احکام والم الہی کے بجالانے میں لذت و فرحت حاصل ہو اور نواہی یعنی محض نعمات کے پاس جانے سے ازیت و کراہت ہونے لگے) یہ قہے طریقت کی غایت باقی جو کچھ ہے (یعنی خاص اذکار و اشغال اور منصوص قسم کی ریاضات وغیرہ) سودہ اس کی تحمیل کے زرائع ہیں لیکن اب بہت سے لوگ ان ذرائع ہی کو اصل طریق سمجھنے لگے۔ حالانکہ بعض تو ان میں سے بدعت ہیں۔ — بہر حال چونکہ ان چیزوں کی حیثیت صرف ذرائع کی ہے اور یہ بذاتِ خود مقصود نہیں ہیں۔ اس لئے احوال و مقتضیات کے

ان ہی رسوم کو وہ اصل دین و شریعت سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان "رسوم" کو مٹایا اور اصل دینی حقائق اور احکام کی تعلیم دی۔

۴ اُمّتِ محمد یعنی بھی اب اس یہاں میں مبتلا ہو چکی ہے اس کی عبادات تک میں یہ رسمیت آچکی ہے حتیٰ کہ دین کی تعلیم بھی جو اس قسم کی ساری خرابیوں کی اصلاح ہونی چاہیے تھی، وہ بھی بہت سی جگہ ایک "رسم" سی ہی بن گئی ہے — لیکن چونکہ سلسلہ نبوت اب ختم کیا جا چکا ہے اور اس قسم کے کاموں کی زمداداری اُمّت کے علماء پر رکھ دی گئی ہے جو نامبین بھی ہیں تو ان ہی کا یہ فرض ہے کہ وہ اس ضلال اور فساد حال کی اصلاح کی طرف خاص طور سے متوجہ ہوں اور اس کا ذریعہ ہے یہ صحیح

نیت ایکونکہ اعمال میں "رسمیت" جب ہی آتی ہے جبکہ ان میں للہیت اور شان عبدیت تھیں رہتی اور نیت کی تصحیح سے اعمال کا رخ صحیح ہو کر اللہ ہی کی طرف پھر جاتا ہے اور "رسمیت" کے بجائے ان میں "حقیقت" پیدا ہو جاتی ہے اور مرکام عبدیت اور فدا پرستی کے جذبہ سے ہوتا ہے۔

الغرض لوگوں کو تصحیح نیت کی طرف متوجہ کر کے ان کے اعمال میں للہیت اور حقیقت پیدا کر لے کی کوشش کرنا علمائے اُمّت اور حاملان کا اس وقت ایک خاص فرض ہے۔

۵ فرمایا — قرآن و حدیث میں بڑی اہمیت کے ساتھ اس حقیقت کا اعلان کیا گیا کہ دین "یُسُر" ہے، یعنی وہ سراسر سہولت اور آسانی ہے لہذا جو چیز دین میں جس درجہ ضروری ہے وہ اسی درجہ میں ہمل اور آسان

اختلاف کے ساتھ ان پر نظر ثانی اور حبِ مصالحت ترمیم و تبدل ضروری ہے البتہ جو چیزیں شرعاً مخصوص ہیں وہ ہر زمانہ میں یکساں طور پر وجوب العمل رہیں گی۔

۳ فرمایا فرائض کا مقام نوافل سے بست بلند تر ہے بلکہ سمجھنا چاہیے کہ نوافل سے مقصود ہی فرائض کی تکمیل یا ان کی کتابائیوں کی تلافی ہوتی ہے بغرض فرائض اصل ہیں اور نوافل ان کے توابع اور فروع مگر بعض لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ فرائض سے تو غفلت بستتے ہیں اور نوافل میں مشغول رہنے کا اس سے بذریعہ زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ مثلاً آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ "دعوت الی الخیر" "امر بالمعروف" اور "نہی عن المنکر" عرض تبلیغ دین کے تمام شعبے اہم فرائض ہیں سے ہیں مگر کتنے ہیں جوان فرائض کو ادا کرتے ہیں۔ یکن اذکار نفلیہ میں اشتغال و انہاک رکھنے والوں کی اتنی کمی نہیں۔

۴ فرمایا بعض اہل دین اور اصحابِ علم کو "استغفار" کے باب میں بڑا سخت مغالطہ ہے وہ سمجھتے ہیں کہ استغفار کا مقصد یہ ہے کہ اغینا اور اہل شرودت سے مطلقاً ملاہی نجات اور ان کے اختلاط سے گلی پر ہیز کیا جائے۔ حالانکہ استغفار کا منشأ صرف یہ ہے کہ ہم ان کی دولت کے حاجتمند بن کر ان کے پاس رہا ہیں اور طلبِ جاہ و مال کے لئے ان سے نہ ملیں۔ لیکن ان کی اصلاح کے لئے اور دینی مقاہمد کے لئے ان سے ملننا اور اختلاط کر کنہ ہرگز استغفار کے منافی نہیں بلکہ یہ تو اپنے درجہ میں ضروری ہے مگر اس چیز

سے بہت ہوشیار رہنا چاہیے کہ ان کے اس اختلاط سے ہمارے اندر جب مال و جاہ اور دولت کی حرکت پیدا نہ ہو جائے۔

۵ فرمایا — جب کوئی اللہ کا بندگی امر خیر کی طرف قدم بڑھانا چاہتا ہے تو شیطان طرح طرح سے اس کی مزاحمت کرتا ہے۔ اور اس کی راہ میں مشکلات اور رکاوٹیں رُالتا ہے لیکن اگر اس کی مزاجمتیں اور رکاوٹیں ناکام رہتی ہیں اور وہ بندگ خدا ان سب کو ٹبور کر کے اس کا رخیر کو شروع کر ہے رہتا ہے تو پھر شیطان کی دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ اس کے اخلاص اور اس کی نیت میں خرابی ڈال کے یاد و سرے طریقوں سے اس کا رخیر میں خود حصہ دار بننا چاہتا ہے۔ یعنی کبھی اس میں "ریاء" و "سماع" (دکھاوے اور شہرت کی خواہش) کو شامل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی دسرے اغراض کی آمیزش اور ملاوٹ سے اس کی للہیت کو بر باد کرنا چاہتا ہے اور وہ اس میں بسا اوقات کامیاب ہو جاتا ہے اس لئے دینی کام کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس خطرہ سے ہر وقت چوکے رہیں اور اس قسم کے شیطانی وساوس سے ہر وقت اپنے دل کی حفاظت کرتے رہیں اور اپنی نیتوں کا بر اسر جائز ہ لیتے رہیں کیونکہ جس کام میں رضاواہی کے علاوہ کوئی دوسرا غرض کسی وقت بھی شامل ہو جائے گی اور بھروسہ اللہ کے یہاں قبول نہیں۔

۶ فرمایا — اکثر دینی مدارس میں یہ ایک بڑی غفلت اور کوتاہی ہوتی ہے کہ طلباء کو پڑھا تو دیا جاتا ہے لیکن اس کی کوئی خاص کوشش نہیں کی جاتی کہ اس پڑھنے پڑھنے کا جو اصل مقصد ہے (یعنی خدمت

اس سے زیادہ غلط استعمال کی ہو گا کہ اعداد دین کے تعلیمی منظہام کی خدمت کا کام اس سے لیا جائے گویا یوں سمجھئے کہ ان امتحانات کے ذریعہ علم دین کی نسبت اللہ و رسولؐ کے بجائے کافروں اور حکومت کافرہ کی طرف کی جاتی ہے۔ اس لئے یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔

۹ فرمایا علم کا سب سے پہلا اور اہم ترقاضایہ ہے کہ ادی اپنی زندگی کا اختاب کرے اپنے فرائض اور کوتا ہیوں کو سمجھے اور ان کی ادا یہی کی نکر کرنے لگے لیکن اگر اس کے بجائے وہ اپنے علم سے روسروں ہی کے اخال کا اختاب اور ان کی کوتا ہیوں کے شمار کا کام لیتا ہے تو پھر علمی کبر و غرور ہے جو اہل علم کے لئے بڑا مہلکہ ہے ٹھکار خود کن کار بیگانہ مکن۔

۱۰ اس سوال پر کلام کرتے ہوئے کہ "مسلمانوں کو حکومت و اقتدار کیوں نہیں بخشاتا ہے" فرمایا:-

اللہ کے احکام اور امر و نواہی کی حفاظت و رعایت تم اپنی ذات اور اپنی منزلی زندگی میں نہیں کر رہے (جس پر تمہیں اختیار حاصل ہے اور کوئی مجبوری نہیں ہے) تو دنیا کا نظم و نسق کیسے تمہارے حوالے کر دیا جائے۔

ایمان والوں کو حکومت ارضی رینے سے منشأ الہی یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی مرضیات اور اس کے احکام کو دنبای میں نافذ کریں تو تم جب اپنے حدود اختیار میں آج یہ تھیں کر رہے تو حکومت تمہارے سپرد کر کے کل کے لئے تم سے

رین اور دعوت (اللہ) وہ پڑھنے کے بعد اسی میں لگیں۔ اس غفلت کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان مدرسوں کے بہت سے مونہسار فاضل فراحت کے بعد بعض تحصیل معاش کو اپنا مطمع نظر بنا کر یا تو طب پڑھنے میں لگ جلتے ہیں یا سرکاری یو نیورسیٹیوں کے امتحان دے کر انگریزی اسکولوں میں تھجیری کا پیشہ اختیار کر لیتے ہیں اور ان کی دینی تعلیم پر جو وقت اور روپیہ خرچ ہوا تھا اور جو محنت کی گئی تھی وہ متلاعک کے لیے اخال سے اس طرح سب فارت ہو جاتی ہے بلکہ با اوقات وہ رشمہن ان دین کے کام آتی ہے۔ لہذا اپنے حلقے سے زیادہ ہم کو اس کی نکار کو ششن کرنی چاہیے کہ جو طلباء پڑھ کر فارغ ہوں وہ رین کی خدمت ہی میں لگیں اور علم دین کے حقوق ادا کریں۔ اپنی کھیتی میں کچھ پیدا نہ ہو تو یہ بھی خار ہے لیکن پیدا ہو کر ہمارے دشمنوں کے کام آئے تو یہ اور زیادہ خاۓ کی بات ہے۔

۸ فرمایا سرکاری یو نیورسیٹیوں کے جو امتحانات "مولوی فاضل" وغیرہ دیتے جاتے ہیں ہم لوگوں کو ان کی تباہت اور ان کے ضرر دینی کا پورا اندازہ اور احساس نہیں۔ یہ امتحانات عموماً اس لئے تدبیتے جاتے ہیں کہ انگریزی اسکولوں میں نوکری مل سکے گویا حکومت کافرہ نے اپنے مصالح کے لئے جو نظام تعلیم رائج کیا ہے اور اس سے اس کے جو مقاصد میں ان امتحانا (مولوی فاضل وغیرہ) کے دینے سے گویا مقصود یہ ہوتا ہے کہ ان مقاصد کی تکمیل کے لئے اس کا فرازہ نظام کے معاون بلکہ اس کے اجرتی آلہ کا رہنے کا ستحقاق پیدا کیا جاسکے۔ غور فرمایا جائے، علم دین پر اس سے بڑا اظلم اور اس کا

اس کی کی امید کی جا سکتی ہے۔

۱۱ فرمایا — جو لوگ گورنمنٹ کے وفادار اور حامی سمجھے جلتے ہیں وہ حقیقت وہ کسی کے بھی وفادار اور حامی نہیں ہیں۔ بلکہ صرف اپنی اغراض کے وفادار ہیں۔ البتہ آج چونکان کی وہ رنی اغراض موجودہ گورنمنٹ سے پوری ہوتی ہیں اس لئے وہ ان کے حامی اور وفادار بنے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر کل ہی کو ان کی اغراض گورنمنٹ کے دشمنوں سے پوری ہونے لگیں تو وہ اسی درجہ میں ان کے بھی حامی اور وفادار ہو جائیں گے۔ درجنہ حقیقی طور پر تو ایسے غرض پرست لوگ اپنے باب کے بھی وفادار نہیں ہوتے تو ان لوگوں کی اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ ان کو بر اجلا کیا جائے۔ یا بس گورنمنٹ کی مخالفت پر ان کو آمادہ کیا جائے۔ ان کی اصلی بیماری "غرض پرستی" ہے اور جب تک یہ ان میں موجود رہے گی، اگر گورنمنٹ کی حمایت انہوں نے چھوڑ بھی دی تو اپنی اغراض کے لئے وہ کسی اور ایسی طاقت کے ایسے ہی وفادار بنتیں گے۔ اس لئے کرنے کا کام یہ ہے کہ ان میں غرض پرستی کے بھائے خدا پرستی پیدا کی جائے اور اللہ اور اس کے دین کا انہیں پھیا وفادار بنانے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بغیر ان کی بیماری کا اصلاح نہیں ہو سکتا۔

۱۲ فرمایا — یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر ادمی کو جیسیں اس چیز کے حصول سے ملتا ہے جس سے اسے رغبت اور چاہت ہو۔ مثلاً ایک شخص کو امیرانہ زندگی بیش قیمت کھانوں اور کپڑوں سے ہی رغبت ہے تو اس کو ان چیزوں کے بغیر چین و آرام نصیب نہیں ہو سکتا، لیکن جس کو چٹائی پر بیٹھنا، اور یہ پر

سو نا، سادہ لباس، سادہ کھانا زیادہ مرغوب ہو ظاہر ہے کہ اس کو اسی میں زیادہ چلیں اور سکھ محسوس ہو گا، پس جن لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں سادہ معاشرت مرغوب ہو جائے اور ان کو اسی میں لذت اور چلیں ملے گے ان پر اللہ تعالیٰ کا بڑا الفعام ہے کہ ان کا چین ایسی ہی چیزوں سے والبستہ فرمایا جو بے حد سستی ہیں اور جن کا حصول ہر غریب و فقیر کے لئے ہمیت آسان ہے۔ اگر بالفرض ہماری رغبت ان بیش قیمت چیزوں میں رکھ دی جاتی جو روالت مندوں ہی کو میسر آ سکتی ہیں تو شاید عمر بھر تک یہ چین ہی نہ ہے۔

۱۳ فرمایا — تم کو حکم ہے کہ جو مال تم کو اس دنیا میں دیا جائے اس کو مت رو کو، یعنی بخل مت کرو بلکہ خرچ کر تے رہو لیکن اس شرط کی پابندی کے ساتھ کہ یہ خرچ بے جگہ بھی نہ ہو اور بے سلیقہ بھی نہ ہو، یعنی یہ صرف صحیح محل و مصرف میں ہو اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پر اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود کے اندر ہو۔

۱۴ فرمایا — ایک وقت ایسا ہوا کہ شاید بارش وغیرہ کی وجہ سے مولانا کے ہسپاں گوشت نہیں آس کا اور اسی دن ہمانوں میں میرے ایک محترم بزرگ (جو حضرت مولانا کے خاص عزیز بھی ہیں) وہ بھی تھے، گوشت سے جن کی رغبت حضرت مولانا کو معلوم تھی، یہ فا جز بھی حاضر تھا، میں نے دیکھا کہ مولانا اپر اس کا بڑا اثر ہے کہ آج دسترخوان پر گوشت نہیں ہے، مجھے اس پر ایک گونہ تعجب ہوا کہ یہ کون سی

تاثر کی بات ہے؟

حکومتی دسیر بعد اسی پر تلق و افسوس کرتے ہوئے فرمایا:

حدیث شریف میں ہے من کان یؤمن باللہ وَالیوم الْآخر
فَلِیُکِرم خیفہ (جو شخص اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہو اس کو جائیے
کہ ہم ان کا اکرام کرے) اور اکرام خیف میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی رغبت کی
چیز اگر ہمیا ہو سکتی ہو تو ہبہ کی جائے۔ اس کے بعد ایک درد کے ساتھ فرمایا
”نَكِيف باضياف اللہ واضياف رسوله“ (جس کا مطلب یہ ہے کہ
جب کسی کے پہاں ایسے ہمہ ان آئیں جو صرف اللہ اور رسول کی وجہ سے اور انہی
کے تعلق اور انہی کے کام سے آتے ہیں تو ان کا حق تو اور سبھی زیادہ ہوتا ہے)

۱۵ نرمایا جنت حقوق کا بدلہ ہے۔ یعنی اپنے حقوق اپنا چین اور
ابنا آرام اللہ کے لئے مٹا یا جھائے اور اپنے پر تکلیف برداشت کر کے دوسری
کے حقوق ادا کئے جائیں۔ (جن میں حقوق اللہ کبھی شامل ہے) تو اسی کا بدلہ
جنت ہے (اسی سلسلہ میں فرمایا) حدیث میں ارشاد ہوا ہے:

”إِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكُمْ وَمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ
وَتَمْ زَمِينَ وَالْوَلُوْنَ پَرْ حِجَمْ كَعَا وَرَبِ السَّمَاوَاتِ پَرْ رَحْمَتْ فَرْمَأَهُ“

حدیث میں دو عورتوں کے رو دو اتفاقے بیان کئے گئے ہیں جو عام طور سے
معلوم اور مشہور ہیں۔ ایک یہ کہ کسی بذرکار اور فاحش عورت نے کتنے کی خبر گیری کی
اور اس کی پاس پر ترس کھا کر کنوں سے پانی نکال کر اسے پلا یا تو اللہ نے اس کے
اس فعل کے عوض اس کے لئے جنت کا فیصلہ فرمادیا۔ اور ایک دوسری عورت نے

جو بد کار نہیں تھی، ایک بُنیٰ کو بھوکار کر کر تڑ پاٹڑ پاکر مارڈ الاتوہ جہنم میں
ڈال دی گئی۔

۱۴ نرمایا — رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معمظمیں (قبل ہجرت)
جو کام کرتے تھے، یعنی چل پھر کرو گوں کو رعوت حق دینا اور اس مقصد کے لئے
خود ان کے پاس جانا، بظاہر مدینہ طیبہ پہنچ کر یہ کام آپ کا نہیں رہا بلکہ دہاں
آپ اپنا ایک مستقر بست کر بیٹھئے، لیکن یہ آپ نے اس وقت کیا جبکہ مکہ رعوت
کو سنبھالنے والوں اور اس کام کو حسن و خوبی کے ساتھ انجام دینے والوں کی ایک
خاص جماعت آپ نے تیار کر دی اور پھر اس کام ہی کا یہ تقاضا ہوا کہ آپ
ایک مرکز میں بیٹھ کے اس کام کو نظم کے ساتھ چلانیں اور کارکنوں سے کام لینیں.
علیٰ ھذا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو مدینہ طیبہ پی کے مرکز میں مقیم رہنا، اس
وقت درست ہوا جبکہ ایران و روم کے علاقوں میں اللہ کے کھل کو سر بلند کرنے
کے لئے جہاد کرنے والے اللہ کے ہزاروں بندے پیدا ہو چکے تھے اور ضرورت
تھی کہ حضرت عمر کو مرکز ہی میں رکھ کر اس رعوت حق اور جہاد فی سبیل اللہ کے
نظام کو استحکام کے ساتھ چلانیں۔

۱۷ نرمایا — حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے صدیق اکابر
رضی اللہ عنہ کو تعلیم دی کہ وہ نماز کے آخر میں اللہ تعالیٰ سے یوں عرض کیا کریں۔
اللَّهُمَّ إِنِّي ظُلْمَتُ نَفْسِي ظُلْمًا كثِيرًا أَوْلَادِي عَفِرُ
الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ نَاغْفِرُ لِي مَغْفِرَةً مِنْ
عِنْدِكَ وَأَرْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

یعنی اے اللہ میں نے اپنے پر بڑا اعظم کیا ہے اور تیرے سو اکوئی گناہوں اور خططاوں کا بخشنے والا نہیں، پس تو محض اپنے فضل و کرم سے (جس میں گویا میرے استحقاق کو کوئی دخل نہیں ہے) مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما بخشنے والا اور رحم کرنے والا یقیناً تو ہی ہے۔

ذراسو چھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا حضرت ابو بکر صرقہ کو تلقین فرمائی ہے جو اس ساری امت میں اکسل و افضل ہیں اور بالخصوص ان کی نماز خور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ایسی کامل ہوتی تھی کہ آپ نے ان کو خود امام نماز بنایا باوجود اس کے ان کو بھی یہ تعلیم فرمایا کہ نماز کے آخر میں اللہ یا ک کے حضور اپنی کوتاہبی اور عبادت کا حق ادا نہ ہو سکتے کا اعتراف اس طرح کیا کر و اور اس طرح محض اس کے فضل و کرم سے غفرنٹ رحمت کی رخواست کیا کرو! — پھر کجا مادشاہ؟

۱۸ فرمایا — انسان کا قیام زمین کے اوپر بہت کم ہے (یعنی زیادہ سے زیادہ عمر طبعی کی مقدار) اور زمین کی پنجی اس کو اس سے بہت زیادہ قیام کرنا ہے۔ یا یوں سمجھو کہ دنیا میں تو تمہارا قیام ہے بہت محضرا اور اس کے بعد جن جن مقامات پر ٹھہرنا ہے۔ مثلاً مرنے کے بعد لفخز اولیٰ تک قبر میں اس کے بعد لفخز شانیہ تک اس حالت میں جس کو اللہ ہی جانتا ہے (اور یہ مدت بھی ہزار ما برس کی ہوگی) اور پھر ہزار ما برس ہی عرصہ محشر میں، اس کے بعد آخرت میں جس نہ کانے کا نیصہ ہو — غرض دنیا سے گزرنے کے بعد ہر منزل اور

مقام کا قیام دنیا سے سینکڑوں ہی گنازیادہ ہوتا ہے۔ پھر انسان کی کیسی ہی غفلت ہے کہ دنیا کے چند روزہ قیام کے لئے وہ جتنا پچھا کرتا ہے ان دوسرے مقامات کے لئے اتنا بھی نہیں کرتا۔

۱۹ فرمایا — "حقيقی ذکر اللہ" یہ ہے کہ آدمی جس موقع پر اور جس حال اور جس مشغله میں ہوا س کے متعلق اللہ کے جو احکام و اوامر ہوں ان کی تکمیل اشت رکھے اور میں اپنے دوستوں کو اسی "ذکر" کی زیادہ تاکید کرتا ہوں۔

۲۰ فرمایا — انسان کو پنے ما سو اپر جو امتیاز و تفویق حاصل ہے اس میں زبان کو خاص دخل ہے۔ اب اگر زبان سے آدمی اچھی ہی باتیں کرتا ہے اور خیری میں اس کو استعمال کرتا ہے تو یہ امتیاز اور تفویق اس کو خیر میں حاصل ہو گا اور اگر زبان کو اس نے الہ شربنار کھا ہے، مثلاً بری باتیں پکتا ہے اور ناحق لوگوں کو ایذا دیتا ہے تو پھر اسی زبان کی بد دلت وہ فرمیں ممتزا اور بالآخر ہو گا جتنی کہ کبھی بھی زبان آدمی کو کئے اور خنزیر سے بھی بدتر کر دے گی۔ حدیث شریف میں ہے۔

وَهُلْ يَكْبُرُ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَىٰ مَا خَرَّبُوهُمْ
الْأَحْصَادُ الْسَّنَتُهُمْ (یعنی آدمیوں کو جہنم میں
اوندو ہے ممنہ ان کی بخواس ہی ڈالے گی) أَللَّهُمَّ احْفَظْنَا

قسط نمبر ۳

۲۱ ایک دن صحیح کی نماز کے بعد خدمت دین اور نصرت

رہنا ہی اپنا منصب سمجھتے ہیں اور اس کے بیچ میں روز بھاگتے جو کچھ ہاتھ
لگ جاتا ہے کھاپی بھی لیتے ہیں لیکن اللہ پاک کے ساتھ اب بندوں کا یہ معاملہ
لاہ گیا ہے کہ مستقل طور سے تودہ اپنے اور بالکل اپنے کاموں اور اپنے
مرغوبات اور لذائذ میں اپنے ہی نئے نئے رستے ہیں اور کبھی کبھی کچھ وقت
اپنے ان ذاتی مشاغل اور مرغوبات سے نکال کر خدا کا کوئی کام بھی کر لیتے
ہیں۔ مثلاً نماز پڑھ لیتے ہیں یا خیر کے کاموں میں چند سے دیتے ہیں اور سمجھتے
ہیں کہ خدا اور دین کا مطالیہ ہم سے ادا ہو گیا حالانکہ حق بندگی یہ ہے کہ اصل
اور مستقل اُتوہ ہو دین کا کام اور اپنا کھانا پینا اور اس کے لئے سامان کرنا ہو صرف
ضمیر اور تبعاً (اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ اپنے اپنے ذرائع معاش اور
کار و بار چھوڑ دیں نہیں بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہواں کی بندگی کے تحت ہو
اور اس کے دین کی خدمت اور نصرت سب میں ماحوظ ہو اور اپنے کھانے بینے
وغیرہ کی جیشیت صرف ضمیری ہو جس طرح ایک غلام کی اپنے آقا کے کار و بار
میں ہوتی ہے)

(۲۳) ایک رن کسی وقت کی نماز ایک صاحب پڑھائی۔ بعد نماز یہ
دعا بھی کی (جو حضرت مولانا بھی بکشیرت کیا کرتے تھے)

اللَّهُمَّ أَنْصُرْ مَنْ نَصَرَ دِينَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَخْذُلْ مَنْ خَذَلَ دِينَ مُحَمَّدٍ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَلَّ اللَّهُجَمَّ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ سَلَّمَ كَرِيْمَ
کِی جو لوگ مدد کریں گے تو ان کی مدد فرمادو جو اس دین کی

دین کی ترغیبی ہے ہوئے سلسلہ کلام اس طرح شروع فرمایا:
و یک ہوس بجانہ اور ملتے ہیں کہ خدا غائب نہیں ہے بلکہ شاہد ہے
اور ہر ان شاہد ہے، تو اس کے حاضر و ناظر ہوتے ہوئے بندوں کا اس میں نہ
لگنا اور اس کے غیروں میں لگا رہنا یعنی اس سے اعراض اور اس کے مساوا میں
استغفال و انہما ک سوچو کر کیسی بے نصیبی اور کتنی بڑی محرومی ہے اور قیاس کرد
کہ چیز خدا کو کس قدر غضبناک کرنے والی ہوگی اور خدا کے دین کے کام سے
غافل رہنا اور اس کے اور امر و احکام کا الحاظ نہ رکھتے ہوئے دنیا میں لگا رہنا
ہی اس کے اعراض اور مساوا میں استغفال و انہما ک ہے اور اس کے بر عکس اللہ
اللہ میں لگنا یہ ہے کہ اس کے دین کی نصرت میں لگا رہے اور اس کے احکام کی فرمائیں
کرتا رہے مگر اس کا الحاظ رکھنا پڑے گا کہ جو بات جتنی زیادہ اہم اور جتنی پیارہ
ضروری ہو اس کی طرف اسی قدر توجہ دی جائے اور یہ چیز معلوم ہوگی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے۔ اور معلوم ہے کہ آپ نے جس کام کے لئے
سب سے زیادہ محنت کی اور سب سے زیادہ تکلفیں برداشت کیں وہ کام تھا
کامہ کا پھیلانا۔ یعنی بندوں کو خدا کی بندگی کے لئے تیار کرنا اور اس کی راہ پر لگانا
تو یہی کام سب سے زیادہ اہم رہے گا اور اس کام میں لگنا اعلیٰ درجہ کا خدا میں
لگنا ہو گا۔

(۲۴) ایک صحبت میں فرمایا — لوگوں نے اللہ کی عبادت اور
اور بندگی کو انسانوں کی غلامی اور لوگوں سے بھی کم درجہ دے رکھا ہے غلاموں
اور نوکروں کا عام حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمہ وقت اپنے آقا کے کام میں لگا

مدد نہ کریں ان کی تو بھی کوئی مدد نہ فرمایا

حضرت مولانا نے اس پر تین بار باواز بلند ایک فاص درد کے ساتھ فرمایا اللہم لا تجعلنا من هم، اللہم لا تجعلنا من هم، اللہم لا تجعلنا من هم۔ پھر حاضرین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

بھائیو! اس دعا پر غور کرو اور اس کا وزن سمجھو۔ یہ دعا اور بذ دعا ہے جس کو قرباً ہر زمانے میں اللہ کے فاص بندے کرتے چلے آئے ہیں یہ بڑی بھاری دعا ہے اس میں دین کی مدد کرنے والوں اور اس را ہمیں جذبہ جدید کرنے والوں کے لئے توحید و نصرت کی دعا ہے لیکن دین کی مدد نہ کرنے والوں کے حق میں بڑی سنتیں بذریعہ دعا ہے کہ خدا ان کو اپنی رحمت و نصرت سے محروم کر دے۔ اب ہر شخص اس دعا کو اپنے اوپر منتہی کر کے دیکھے کہ وہ اس کی اچھی دعا کا مصداق ہے یا بدعا کا نشانہ۔ یہ بھی خیال ہے کہ اپنی اپنی نماز میں پڑھنا اور روزے رکھنا، اگرچہ اعلیٰ درجہ کی عبارتیں میں لیکن یہ دین کی نصرت کے کام نہیں ہیں۔ دین کی نصرت تو وہی ہے جس کو قرآن پاک اور اللہ کے رسول ﷺ اعلیٰ اللہ علیہ وسلم نے "نصرت" بتالا ہے۔ اور اس کا اصلی اور مقبول ترین طریقہ بھی وہی ہے جس کو انحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روایج دیا ہے۔ اس درست اس طریقہ اور اس روایج کو تازہ کرنے اور پھر سے اس کو جاری کرنے کی سعی کرنا ہی دین کی اسباب سے بڑی نصرت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اسکی توفیق نے۔

قط نمبر

اس قسط کے نام ملفوظات اس دینی تحریکی دعوت ہی سے متعلق ہیں جس میں خضرت فنا تھے۔ اس دعوت کے کارکنوں کو غور سے ان ملفوظات کو پڑھنا چاہیے۔

(۲۳) ایک صحبت میں فرمایا ہماری اس تحریک کا اصل مقصد ہے مسلمانوں کو "جمیع ماجاءَتِبِ اللہِ" ^{۱۴} سکھانا (یعنی اسلام کے پورے علمی و عملی نظام سے امت کو وابستہ کر دینا) یہ تو ہے ہمارا اصل مقصد۔ رہی قافلوں کی یہ چلت پھرت اور تبلیغی گشت سو یا اس مقصد کے لئے ابتدائی زریعہ ہے۔ اور کلمہ و نماز کی تلقین و تعلیم گو یا ہمارے پورے نصاب کی "الف ابے اتے" ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ ہمارے قافلوں پورا کام نہیں کر سکتے۔ ان سے تو بہ اتنا ہی ہو سکتا ہے تو ہر جگہ پہنچ کر اپنی جدوجہد سے ایک حرکت و بیداری پیدا کر دیں اور قافلوں کو متوجہ کر کے دہاں کے مقامی اہل دین سے والبستہ کر لے کی اور اس جگہ کے دین کی نکد کرنے والوں (علماء و صلحاء) کو بیچارے عوام کی اصلاح پر لگادینے کی کوشش کریں۔ ہر جگہ تو اصلی کام تروہیں کے کارکن کر سکیں گے۔ اور عوام کو زیادہ فائدہ اپنی جگہ کے اہل دین ہی سے استفادہ کرنے سے ہو گا البتہ اس کا طریقہ ہمارے

اُن آدمیوں سے سیکھا جائے جو ایک عرصہ سے افادہ و استفادہ اور تعلیم و تعلم کے اس طریقہ پر عامل ہیں اور اس پر بڑی حذف کتابوں پاپے کے ہیں۔

۲۵ ایک صحبت میں فرمایا ۔۔۔ ہمارے کارکن اس بات کو مضبوطی سے یاد رکھیں کہ اگر ان کی دعوت و تبلیغ کہیں قبول نہ کی جائے اور ائمماں کو برائجلا کیا جائے، الزامات لگائے جائیں تو وہ مالیوس اور ملول نہ ہوں، اور اپسے موقع پرستیار کر لیں کہ یہ انبیاء و علیهم السلام اور بالخصوص سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص سنت اور وراثت ہے۔ راهِ خدا میں زلیل ہونا ہر ایک کو کہاں نصیب ہوتا ہے اور جہاں اس کا استقبال اعزاز و اکرام سے کیا جائے ان کی دعوت و تبلیغ کی قدر کی جائے اور طلب کے ساتھ ان کی با تین سفی جائیں تو اس کو اللہ پاک کا فقط انعام سمجھیں اور ہرگز اس کی ناقدری نہ کریں۔

ان طالبوں کی خدمت اور تعلیم کو اللہ کے اس احسان کا خاص شکریہ سمجھیں۔ اگر وہ یہ تھوڑے سے جپوٹے طبقہ کے لوگ ہوں۔ قرآن یاک کی آیات عَبْسَ وَتَوْلَى أَنْ جَاءَهُ الْأَغْمَى الایات میں ہم کو یہی سبق دیا گیا ہے۔ ہاں اس صورت میں اپنے نفس کے فریب سے بھی ڈرتے رہیں۔ نفس اس مقبولیت مطلوبیت کو اپنا کمال نہ سمجھنے لگے، نیز اس میں "پیر پرستی" کے فتنہ کا بھی سخت انداز ہے لہذا اس سے خاص طور سے خبردار رہیں

۲۶ ایک صحبت میں فرمایا ۔۔۔ سب کارکنوں کو سمجھا رکرا اس راہ میں بلاں اور تکلیفوں کو خدا سے مانگیں تو ہرگز نہیں (بندہ کو اللہ سے ہمیشہ عانیت ہی مانگنی چاہیے) لیکن اگر اللہ پاک اس راہ میں یہ مصیبیں یعنی دے

تو پھر ان کو خدا کی رحمت اور ذریعۃ کفارہ میثاث درفتہ درجات سمجھا جائے۔ راہِ خدا میں اس قسم کی مصیبیں تو انہیا اور صدیقین و مقتولین کی خاص غذا میں ہیں۔

۲۷ ایک صحبت میں فرمایا ۔۔۔ تبلیغ و دعوت کے وقت بالخصوص اپنے باطن کا رخ اللہ پاک ہی کی طرف رکھنا چاہیے نہ کہ من اطبین کی طرف، گوریا اس وقت ہمارا دھیان یہ ہے ناجا ہیے کہ ہم اپنے کسی کام اور راپنی ذاتی رائے سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے اور اس کے کام کیلئے نکلے ہیں۔ من اطبین کی توفیق بھی اسی کے تبعضہ قدرت ہیں ہے۔ جب اس وقت یہ دھیان ہو گا، تو انشاء اللہ من اطبین کے غلط بر تاؤ سے نہ تو غصتہ آئے گا اور نہ ہمت لوثی گی۔

۲۸ فرمایا ۔۔۔ کیا غلط رواج ہو گیا ہے اور سروں لوگ ہماری بات مان لیں تو اس کو ہم اپنی کامیابی سمجھتے ہیں اور نہ مانیں تو اس کو ہماری ناکامی سمجھا جانا ہے۔ عالانکہ اس راہ میں خیال کرنا بالکل ہی غلط ہے۔ روسروں کامانیا یا نہ ماننا تو ان کا لعل ہے، ان کے کسی فعل سے ہم کامیاب یا ناکام کیوں کئے جائیں۔ ہماری کامیابی یہی ہے کہ ہم اپنا کام پورا کر دیں۔ اب اگر روسروں نے نہ مانا تو یہ ان کی ناکامی ہے، ہم ان کے نہ ماننے سے ناکامیا کیوں ہو گئے۔ لوگ کہوں گئے، وہ منواری سمجھنے کو لا جو درحقیقت خدا کا کام ہے؟ اپنا کام اور راپنی ذمہ داری سمجھنے لگے۔ حالانکہ ہماری ذمہ داری صرف بطريق حسن اپنی کوشش لگا دینا ہے۔ منوانے کا کام تو بیغمبر نکے سپرد

بھی نہیں کیا گی۔

ماں نہ ماننے سے یہ سبق لینا چاہیئے کہ شاید تمہاری کوشش میں کمی رہی اور ہم سے حق ادا نہ ہو سکا جس کی وجہ سے اللہ پاک نے نیتی ہمیں دکھلایا اور اس کے بعد اپنی کوشش کی مقدار کو بڑھادیتے اور دعا و توفیق طلبی میں بھی کٹا وکیفًا اضافہ کرنے کا عزم کر لینا چاہیئے۔

۲۹ فرمایا — ہمارے عام کارکن جہاں بھی جائیں وہاں کے حقانی علماء و صلحاء کی خدمت میں حاضری کی کوشش کریں لیکن یہ حاضری حرف استفادہ کی نیت سے ہو اور ان حضرات کو براہ راست اس کام کی دعوت نہ دیں۔ وہ حضرات جن زینی مشاغل میں لگے ہوئے ہیں ان کو تو خوب جانتے ہیں اور ان کے منافع کا وہ تجربہ رکھتے ہیں اور تم اپنی یہ بات ان کو اچھی طرح سے سمجھا دیں گے یعنی تم ان کو اپنی ہاتوں سے اس کا یقین نہیں دلا سکو گے کہ یہ کام ان کے دوسرا مشاغل سے زیادہ دین کے لئے مفید اور زیادہ منفعت بخش ہے۔ نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ تمہاری بات کو مانیں گے نہیں اور جب ایک دفعہ ان کی طرف سے "نا" ہو جائے گی تو پھر اس "نا" کا کبھی بھی "ہاں" سے بدلنا مشکل ہو جائے گا۔ پھر اس کا ایک برا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے عقیدتمند عوام بھی پھر تمہاری بات نہ سُنیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ خود تمہارے اندر تند بذبب ہو جائے۔ اس لئے ان کی خدمت میں لبس استفادہ کے لئے ہی جایا جائے۔ لیکن ان کے ماحول میں نہایت محنت سے کام کیا جائے اور اصولوں کی زیادہ سے زیادہ رعایت کی کوشش کی جائے۔

اس طرح اُمید ہے کہ تمہارے کام اور اس کے نتائج کی اطلاعیں خود بخود ان کو پہنچیں گی اور وہ ان کے لئے داعی اور ان کی توجہ کی جا لب ہو جائیں گی۔ پھر اگر اس کے بعد اگر خود تمہاری طرف اور تمہارے کام کی طرف متوجہ ہوں تو ان سے سر پرستی اور خبرگیری کی درخواست کی جائے اور ان کے دینی ادب احترام کو ماحظہ رکھتے ہوئے اپنی بات ان سے کہی جائے۔

۳۰ فرمایا — اگر کہیں دیکھا جائے کہ ماں کے علماء و صلحاء اس کام کی طرف ہمدردانہ طور سے متوجہ نہیں ہوتے تو ان کی طرف سے بدگمانیوں کو دل میں جگہ نہ رکھی جائے بلکہ یہ سمجھ لیا جائے کہ ان حضرات پر اس کام کی پوری حقیقت ابھی کھلی نہیں ایزی پر سمجھ لیا جائے کہ چونکہ یہ دین کے خاص خادم ہیں اس لئے شیطان ان کا ہم سے زیادہ گہرا شکن ہے (چور مایہ ہی پر تو آتا ہے) علاوہ اس کے یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ دنیا جو حقیر و زلیل چیز ہے جب اس کے گرفتار اپنے دینی مشاغل پر اس کام کو تریجع نہیں دے سکتے اور اپنے مشاغل را نہماں کو چھوڑ کر اس کام میں نہیں لگ سکتے تو اہل دین اپنے اعلیٰ دینی مشاغل کو اس کام کا کیلئے کیسے آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں۔ عرفاء نے کہا ہے کہ "جماباتِ نورانی جماباتِ ظلمانی سے بد جہازیارہ شدید ہوتے ہیں۔

۳۱ ایک صحبت میں فرمایا — تبلیغ کے اصولوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عمومی خطاب میں پوری سختی ہو اور خصوصی خطاب میں نرمی بلکہ حتیٰ اوسع خصوصی اصلاح کے لئے بھی عمومی خطاب ہی کیا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاص افراد کا بھی کوئی جرم معلوم ہوتا تو بھی اکثر آپ

"ما بال اقوام کہہ کر ہی خطاب و عتاب فرماتے۔

(۳۲) ۳۲ ایک صحبت میں فرمایا — باول میں خوش بولیت ہماری عادت ہو گئی ہے اور اچھے کام کی باتیں کہ لینے کو ہم اصل کام کے قائم مقام سمجھ لیتے ہیں۔ اس عادت کو جھوڑو، کام کرو کام سے کارکن کار بگذر از گفتار کندریں راہ کاردار د کار

(۳۳) ۳۳ ایک صحبت میں فرمایا — وقت چلتی ہوئی ایک ریل ہے، گھنٹے منٹ اور لمحے گویا اس کے ڈبے ہیں اور ہمارے مشاغل اس میں بیٹھنے والی سواریاں ہیں اب ہمارے دنیوی اور مادّی ذلیل مشاغل نے ہماری زندگی کی ریل کے ان ڈبوں پر ایسا بقدر کر لیا ہے کہ شریف اُخزوی مشاغل کو آنے نہیں دیتے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ عزیمت سے کام لے کر ان ذلیل اور دنی مشاغل کی جگہ ان شریف اور اعلیٰ مشاغل کو قابض کر دیں؛ جو خدا کو راضی کرنے والے اور ہماری آخرت کو بنانے والے ہیں۔

(۳۴) ۳۴ ایک صحبت میں فرمایا — جتنا بھی اچھے سے اچھا کام کرنے کی اللہ توفیق دے، ہمیشہ اس کا خاتمہ استغفار پر ہی کیا جائے بغرض ہمارے ہر کام کا جزو اخراج استغفار ہو۔ یعنی یہ سمجھ کر مجھ سے یقیناً اس کی ادائیگی میں کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ ان کوتاہیوں کے لئے اللہ سے معافی مانگی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے ختم پر بھی اللہ سے استغفار کیا کرتے تھے لہذا تبلیغ کا کام بھی ہمیشہ استغفار ہی پر ختم کیا جائے۔ بنده کسی

طرح بھی اللہ کے کام کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ نیز ایک کام میں مشغولیت بہت سے دوسرے کاموں کے نہ ہو سکنے کا بھی باعث بن جاتی ہے تو اس قسم کی چیزوں کی تلافی کے لئے بھی ہر اچھے کام کے ختم پر استغفار کرنا چاہیے۔

(۳۵) ۳۵ ایک روز بعد نماز فجر حب کے اس تحریک میں عملی حصہ لینے والوں کا نظام الدین کی مسجد میں بڑا جمع تھا اور حضرت مولانا کی طبیعت اس قدر مکروہ تھی کہ بتر پر لیٹے یہ طبقہ بھی روپا رفیض بآواز نہیں فرماسکتے تھے تو اہم سے ایک خاص خادم کو طلب فرمایا اور اس کے دامن میں سے اس پوری جماعت کو کہلوایا کہ — آپ لوگوں کی یہ ساری پہلادت پھرست اور ساری جدوجہد بیکار ہو گی اگر اس کے ساتھ علم دین اور ذکر اللہ کا پورا اہتمام آپ نہیں کیا۔ (گویا یہ علم و ذکر رُو بازو ہیں جن کے بغیر اس فضا میں پرواز نہیں کی جاسکتی) بلکہ سخت خطرہ اور قوی اندیشہ ہے کہ اگر ان روجیزوں کی طرف سے تغافل برتا گیا تو یہ جدوجہد مباراکۃ اور ضلالت کا ایک نیا دروازہ نہ بن جائے گا۔ رین کا اگر علم ہی نہ ہو تو اسلام و ایمان محض زہمی اور اسمی ہیں۔ اور اللہ کے ذکر کے بغیر اگر علم موبھی تو وہ سر امنظہمت ہے اور علی اہذا اگر علم دین کے بغیر ذکر اللہ کی کثرت بھی ہو تو اس میں بڑا خطرہ ہے۔ الغرض علم میں نور ذکر سے آتا ہے اور بغیر علم دین کے ذکر کے حقیقی برکات و ثمرات حاصل نہیں ہو سکتے۔ بلکہ بسا اوقات ایسے جہاں صوفیوں کو شیطان اپنا آؤ کار بنا لیتا ہے۔ لہذا اعلم اور ذکر کی اہمیت کو اس سلسلہ میں کبھی فراموش نہ کیا جائے۔ اور اس کا ہمیشہ خاص اہتمام رکھا جائے ورنہ آپ کی یہ تبلیغی

تحریک بھی بس ایک آوارہ گردی ہو کر رہ چلے گی اور خدا نے کردہ آپ لوگ سخت خسارہ میں رہن گے۔

(حضرت مولانا کا مطلب اس مذکیت سے یہ تھا کہ اس راہ میں کام کرنے والے تبلیغ و دعوت کے سلسلہ کی محنۃ و مشقت، سفر و ہجرت اور ایثار و قربانی ہی کو اصل کام نہ سمجھیں۔ جیسا کہ آج کل کی عام ہو لے ہے بلکہ دین کے تعلیم و تعلم اور ذکر اللہ کی عادت ڈالنے اور اس سے تعلق پیدا کرنے کو اپنا اہم فریضہ سمجھیں۔ بالفاظ ادیگان کو ضر "سیاہی" اور "النثیر" بننا نہیں ہے، بلکہ طالب علم دین اور "اللہ کا یاد کرنے والا بندہ" بھی بننا ہے)

قسط نمبر سیکر

اس قسط کے تمام ملفوظات حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی کے مرتب فرمائے ہوئے ہیں

۳۴) آخری درع جب میں وسطِ جون میں حاضر ہوا تو دیکھتے ہی فرمایا۔

بہ لمب رسیدہ جانم تو بی کہ زندہ مانم
پس ازاں کہ من زمانم بچپے کارخواہی آمد

مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ آبدیدہ ہو گیا۔ پھر فرمایا کہ وعدہ بھی یاد ہے؟
(میں نے وعدہ کیا تھا کہ کچھ دن تبلیغ میں رہوں گا) عرض کیا یاد ہے مگر

اس وقت تو وہی میں گرمی بہت ہے۔ رمضان میں تعطیل ہو گی تو بعدِ رمضان کے وقت دوں گا۔ فرمایا۔

"تم رمضان کی باتیں کہ تھے وہیں شعبان کی بھی امید نہیں"

میں نے عرض کیا بہت اچھا بیٹھا گیا، آپ دل براند کریں
میں ابھی تبلیغ میں وقت رہوں گا"۔

یہ سن کر چہرہ خوشی سے چک اٹھا، میرے گلے میں باہم ڈال دیں۔
اور پیشانی کو بوسہ دیا اور دیر تک سینہ سے لپٹائے رکھا اور بہت دُعا میں دیں پھر فرمایا، تم نے میری طرف رخ تو کیا ہے بہت سے علماء تو در در ور ہی اسے میرے مقصد کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ پھر ایک بڑے عالم کا نام اپاک وہ تبلیغ میں آج کل بہت حصے لے رہے ہیں مگر مجھ سے پوچھو تو وہ اب تک بھی میرے منفا کو نہ سمجھ سکے کیونکہ مجھ سے اب تک بلا اسٹھے گفتاؤ نہیں کی، وسائل سے گفتگو کی ہے۔ اب میں وسائل سے اپنے منٹا کو کیونکر سمجھا دوں خصوصاً جبکہ وسائل بھی ناقص ہوں۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ تم کچھ دنوں میرے پاس رہو تو میرے منٹا کو سمجھو گے، دو رہ کر نہیں سمجھ سکتے، یہ میں جانتا ہوں کہ تم تبلیغ میں حصہ لیتے ہو، جلسوں میں تقریر کرتے ہو، تمہاری تقریر سے نفع بھی ہوتا ہے مگر یہ تبلیغ وہ نہیں جو میں چاہتا ہوں۔

لے چنا پڑھ شعبان آنے میں ابھی ایک عشرہ باتی تھا کہ ۲۱ ربیعہ الہ کی صبح کو نبیت اعلیٰ سے جامی
رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى رَحْمَةُ الْأَبْرَارِ الرَّحِيمِينَ۔

۳۹ ایک جماعت کو مسجد اسلامی میں قبل نماز جمعہ میرا بیان ہوا۔ مولانا ہی کی تجویز تھی کہ وہاں بیان ہونا چاہیئے۔ نماز کے بعد میں اسی روز نظام الدین والپس نہ ہوا۔ اپنے اعزہ کے پاس رات کو رہ گیا۔ اگلے دن نظام الدین پہنچا اور معدرات کی را عزہ کی اصرار کی وجہ سے رات کو دہلی رہ گیا تھا۔ فرمایا، ارے مولانا اس معدرات کی ضرورت نہیں کام میں لگنے والوں کو ایسے اعذار پیش آیا ہی کرتے ہیں، اس کی پرواہ نہیں اچھا یہ بتلو۔ مسجد اسلامی میں وعظ ہوا تھا؛ عرض کی جی ماں ہوا تھا، بت خوش ہوئے اور فرمایا دیکھو یہ لوگ خود اپنی طلب سے ہم کو نہیں بلائے ان کو دنیا ہی سے فرصت نہیں ان کے پاس ہم کو بے طلب خود جا کر تبلیغ کرنا چاہیئے۔

پھر فرمایا کیا بیان ہوا تھا؟ عرض کیا کہ آیت ان فی خلق السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَآخْتِلَادُ فِي الْمُلْكِ قَالَنَّهَارِ لَيَقِيَتْ لَادُولِي الْأَلْبَابِ الْبَذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُودًا وَ عَلَى جُنُوبِهِمْ... الْآیۃ سے یہ ثابت کر کے کہ عقلاء وہ ہیں جو نظام عالم میں غور کر کے اس کے خالق کو پہچانتے اور ہر وقت اس کی یادیں رہتے ہیں۔ زندہ زمین و آسمان کی گردش ہی کے چکر میں رہ جائیں اور خالق تک نہ پہنچیں۔ ذکر اللہ کی ضرورت اور اس کی حقیقت واضح کی پھر تبلیغ کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ فرمایا۔ یہ مضمون بہت اونچا تھا۔ اس تجمع کے ناابن نہ تھا۔ اس مضمون کے اہل ہمارا پرچم ہی اس کو ہمارا کسی وقت بیان کرنا

۳۷ ایک صحبت میں فرمایا۔ حدیث میں ہے "الدُّنْيَا سُجُونُ الْمُؤْمِنِ وَ جَنَّةُ الْكَافِرِ" اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم دنیا میں نفس کی حیات اور زندگی خواہشات کے مطابق چلنے کے لئے نہیں بھیجے گے جس سے یہ دنیا آر جی کے لئے جنت بن جاتی ہے۔ بلکہ ہم نفس کی مخالفت اور احکام الہی کی اطاعت کے لئے بھیجے گئے ہیں جس سے یہ دنیا "مؤمن" کیلئے "سجن" (اجیل خانہ) بن جاتی ہے۔ پس اگر ہم بھی کفار کی طرح نفس کی حیات و موافقت کرنے کے دنیا کو اپنے لئے جنت بنائیں گے تو ہم جنت کفار کے غاصب ہوں گے۔ اور اس صورت میں نصرت حق غاصب کے ساتھ نہ ہوگی بلکہ مغضوبہ مدنہ کے ساتھ ہوگی۔ فرمایا اس میں اچھی طرح غور کرو۔

۳۸ فرمایا۔ لوگ میری تبلیغ کے برکات دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ کام ہوا رہا ہے۔ حالانکہ کام اور چیز ہے اور برکات اور چیز ہے۔ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت شریفہ ہی سے تو برکات کاظہ ہو نے لگتا تھا۔ مگر کام بہت بعد میں شروع ہوا، اسی طرح یہاں سمجھو میں پچ کہنا ہوں کہ ابھی تک اصلی کام شروع نہیں ہوا، جس دن کام شروع ہو جائے گا تو مسلمان سات سو برس پہلے کی حالت کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اور اگر کام شروع نہ ہوا بلکہ اسی حالات پر رہا جس پر اب تک ہے اور لوگوں نے اس کو مبنی تحریکات کے ایک تحریک سمجھ لیا اور کام کرنے والے اس راہ میں چل گئے تو جو نئے صدیوں میں آتے وہ ہمیزوں میں آجائیں گے اس لئے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔

چاہیئے۔ اس مجمع کے مناسب دوسری آیت تھی۔ "وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا
الظَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُ ذَهَارًا أَنَّا أَبْوَا إِلَيْهِ لَهُمْ أَبْشُرٌ
عِبَادَى الَّذِينَ يَسْتَعْوِنُونَ الْقَوْلَ فَيَتَبَعَّوْنَ أَحْسَنَهُ أَوْ لَئِكَ
الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأَوْلَئِكَ هُمُ الْأَلَّابَابُ" فرمایا
یہ طبقہ نیچے درجہ کا ہے جس پر لفظ "هَدَاهُمُ اللَّهُ" دال ہے عرض
کیا تھا ہے، پھر موقع ہوا تو وہاں اسی کو بیان کروں گا۔

۳۰ (۱) ایک صحبت میں فرمایا ہے ہماری تبلیغ کا اصل مقصد طاغوت سے
ہٹنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور یہ بدون قربانی کے نہیں ہو سکتا دین
میں جان کی بھی قربانی ہے اور مال کی بھی سو تبلیغ میں جان کی قربانی یہ
ہے کہ اللہ کے واسطے اپنے وطن کو چھوڑ دے اور اللہ کے کاروں کو پھیلائے۔
دین کی اشاعت کرے مال کی قربانی یہ ہے کہ سفر تبلیغ کا خرچ خود برداشت
کرے اور جو کسی مجبوری کی وجہ سے کسی زمانے میں خود نہ کل سکے وہ خصوصیت
اس زمانے میں دوسروں کو تبلیغ میں نکلنے کی ترغیب دے، اور وہ کو سمجھنے
کی کوشش کرے۔ اس طرح "الَّذَّلُ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلُهُ" کی بنا
پر جتنوں کو یہ سمجھے گا ان سب کی کوششوں کا ثواب اس کو بھی ملے گا۔
اور اگر نکلنے والوں کی امداد مالی بھی کرے گا تو مالی قربانی کا بھی اس کو ثواب
ملے گا، پھر ان جانے والوں کو اپنا محسن سمجھنا چاہیئے کہ جو کام ہمارے کرنے کا
تحام کر سکی عذر کی وجہ سے اس وقت ذکر کے تو یہ حضرات ہمارے فرض کو ادا
کر رہے ہیں۔ دین کا ہدیہ ہے کہ قاعدین و معذورین مجاهدین کو اپنا محسن سمجھیں۔

(۱) ایک بار فرمایا، مولانا ہماری تبلیغ میں علم و ذکر کی بڑی اہمیت
ہے۔ بدون علم کے لا عمل ہو سکے گا ان عمل کی معرفت اور بدون ذکر کے علم
ظلمت ہی ظلمت ہے اس میں نور نہیں ہو سکتا مگر ہمارے کام کرنے والوں
میں اس کی کمی ہے۔ میں نے عرض کیا تبلیغ خود بہت اہم فرض ہے۔ اس کی
وجہ سے ذکر میں کمی ہونا ویسا ہی ہے جیسا حضرت سید صاحب بربلوبی قدس سرہ
جس وقت جہاد کی تیاری کے لئے اپنے خدام کو بجاۓ ذکر و شغل کے
نشانہ بازی اور گھوڑے کی سواری میں مشغول کر دیا تو بعض نے یہ تکاہت
کی کہ اس وقت پہلے جیسے انوار نہیں ہیں۔ تoh حضرت سید صاحبؑ نے
فرمایا کہ ماں اس وقت ذکر کے انوار نہیں جہاد کے انوار ہیں اور اس
وقت اسی کی ضرورت ہے۔ فرمایا "مگر مجھے علم اور ذکر کی کمی کا تلقی ہے۔
اور یہ کمی اس واسطے ہے کہ اب تک اہل علم اور اہل ذکر اس میں نہیں گئے
ہیں اگر یہ حضرات آگر اپنے اتھر میں کام لے لیں تو یہ کمی بھی پوری ہو جائے
مگر علماء اور اہل ذکر تو ابھی تک اس میں بہت کم آئے ہیں۔

(تشریح) اب تک جو جماعتیں تبلیغ کے لئے روانہ کی جاتی ہیں ان
میں اہل علم اور اہل نسبت کی کمی ہے جس کا حضرت کو تلقی تھا۔ کاش
اہل علم اور اہل نسبت بھی ان جماعتوں میں شامل ہو کر کام کریں تو یہ کمی
پوری ہو جائے۔ الحمد للہ، مرکز تبلیغ میں اہل علم اور اہل نسبت موجود
ہیں مگر وہ چند لمحے کے آدمی ہیں، اگر وہ ہر جماعت کے ساتھ جایا کریں تو
مرکز کام کون سرا بجا مدار دے گا۔

نہ کاہو، مگر مسلمانوں کی دین سے محرومی پر رحم نہیں آتا، گویا زندگی کے نقصان کو نقصان سمجھا جاتا ہے، لیکن دین کے نقصان کو نقصان نہیں سمجھا جاتا پر رحم پر آسمان والا کیوں رحم کرے۔ جب ہمیں مسلمانوں کی دینی حالت کے ابتر ہونے پر رحم نہیں۔ فرمایا۔ ہماری اس تبلیغ کی بنیاد اسی رحم پر ہے اس لئے یہ کلام شفقت اور رحم ہی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر مبلغ اس لئے تبلیغ کر رہا ہے کہ اس کو اپنے بھائیوں کی دینی حالت کے ابتر ہونے کا حصہ ہے تو یقیناً وہ رحم اور شفقت کے ساتھ اپنے فریضہ کو انجام دے گا۔ لیکن اگر یہ منشأ نہیں کچھ اور منشأ ہے تو پھر تکبیر و عجب میں مبتلا ہو گا۔

جس سے نفع کی امید نہیں۔ یہ جو شخص اس حدیث کو پیش نظر کر کہ تبلیغ کرے گا اس میں خلوص بھی ہو گا اس کی نظر اپنے عیوب پر بھی ہو گی۔ اور دوسروں کے عیوب پر نظر کے ساتھ ان کی اسلامی خوبیوں پر بھی نظر ہو گی تو یہ شخص اپنے نفع کا حاجی نہ ہو گا بلکہ شاکی ہو گا اور اس تبلیغ کا گھر ہی ہے کہ حمایت نفس سے الگ ہو کر صلکیت نفس کا سبق ہمیشہ پیش نظر ہے۔

(۳۵) ایک بار فرمایا — مولانا حکماں الحسینی کا تقدیر لازم ہے، برابر تقدیر میں لکار ہنا چاہیے۔ مثلاً کسی کام میں مشغول ہونے سے پہلے سوچنا چاہیئے کہ اشتغال و چیزوں کو چاہتا ہے۔ ایک اس کام پر توجہ کو جس میں مشغول ہونا چاہتا ہے دوسرے اور کاموں سے اس وقت غفلت کو، تو اب سوچنا چاہیئے کہ جن کا مولد سے اس وقت غفلت ہو گی ان میں کوئی اس کام سے تو اہم نہیں جس میں اشتغال ہو گا۔ اور یہ بد و ن تقدیر کے

(۳۶) ایک خط میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کا یہ فقرہ تھا کہ مسلمان روہی طرح کے ہو سکتے ہیں، تیسری کوئی قسم نہیں۔ یا اللہ کے راستے ہیں خود نکلنے والے ہوں یا نکلنے والوں کی مدد کر لے والے ہوں، فرمایا بہت خوب سمجھے ہیں۔ پھر فرمایا نکلنے والوں کی مدد میں یہ بھی داخل ہے کہ لوگوں کو نکلنے پر آمادہ گرے اور ان کو یہ بتلائے کہ تمہارے نکلنے سے فلاں عالم کے درس بخواری یا درسِ قرآن کا حرج نہ ہو گا۔ تو تم کو بھی اس کے درس کا ثواب ملے گا۔ اس قسم کی نیتوں سے لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے۔ اور ثواب کے راستے بتلانے چاہیے۔

(۳۷) ایک بار فرمایا — مولانا ہماری تبلیغ کا حاصل یہ ہے کہ عام دن را مسلمان ہانے اور والوں سے دین کو لیں اور اپنے بھی والوں کو دین۔ مگر بچے والوں کو اپنا محسن سمجھیں کیونکہ جتنا ہم کلمہ کوہنپا اٹیں گے، اپھیلا اُمیں گے اس سے خود ہمارا کلمہ بھی منور اور کامل ہو گا اور جتنوں کو ہم نمازی بنائیں گے اس سے خود ہماری نماز بھی کامل ہو گی (تبلیغ کا یہ بڑا اگر ہے کہ اس سے مبلغ کو اپنی تکمیل مقصود ہو، دوسروں کے لئے اپنے کو ہماری نہ سمجھے کیونکہ ہماری اللہ تعالیٰ کے ہوا کوئی نہیں)

(۳۸) ایک مرتبہ فرمایا — حدیث میں ہے "مَنْ لَا يَرْحَمُ لَا يُرْحَمُ إِنَّهُمْ وَأَنْفُلُ فِي الْأَرْضِ يُرْحَمُ كُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ" اُمّر اسوس! لوگوں نے اس حدیث کو بھوک اور فاقہ والوں پر رحم کے ساتھ شخصوں کر لیا ہے اس لئے ان کو اس شخص پر تور حتم تو آتی ہے جو بھوکا ہو پیاسا ہو۔

نہیں ہو سکتا۔

(۳۶) ایک بار فرمایا — نماز سے پہلے کچھ دینماز کامراقبہ کرنا چاہیے جو نماز بلا انتظار کے ہو وہ چس پھنسی ہے تو نماز سے پہلے نماز کو سوچنا چاہیے۔

ف: — شریعت نے اسی واسطہ فرض سے پہلے سنن نوافل اقامت وغیرہ مشرع کئے ہیں تاکہ نماز کامراقبہ اچھی طرح ہو جائے پھر فرض ادا کیا جائے مگر ہم تو سنن و نوافل اور اقامت وغیرہ کے ان نوائد و مصالح کو سمجھتے ہیں اور ان سے فائدے حاصل کرتے ہیں۔ اس لئے ہمارے فرائض بھی ناقص ادا ہوتے ہیں۔

اللَّهُمَّ إِنِّي أُسْأَلُكُ تَهَامَ الْوُضُوءِ وَتَهَامَ الصَّلَاةِ وَتَهَامَ رُضُوانِكَ آمِينُ.

(۳۷) ایک بار فرمایا — تبلیغ میں کام کرنے والوں کپنے قلب میں وسعت پیدا کرنا چاہیے جو اللہ کی وسعت رحمت پر نظر کر کے پیدا ہوگی۔ اس کے بعد تبریزت کا اہتمام کرنا چاہیے۔

(۳۸) ایک بار فرمایا — سید ناز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائے اسلام کے زمانہ میں (جب دین ضعیف تھا اور دنیا قوی تھی) بے طلب لوگوں کے گھر جا جا کر ان کی مجاہس میں بلا طلب پہنچ کر دعوت دیتے تھے طلب کے منتظر نہیں رہے بعض مقامات پر حضرات صحابہؓ کو از خود بھیجا ہے کہ فلاں جگ تبلیغ کرو۔ اس وقت وہی ضعف کی حالت نہیں، تواب ہم کو بھی

بے طلب لوگوں کے پاس خود جانا چاہیے۔ مادی دوں افاسقوں کے مجمع میں پہنچنا چاہیے اور کلمہ حق بلند کرنا چاہیے۔ (پھر شکی غالب ہو گئی اور بات رکر سکتے تو فرمایا) مولانا تم میرے پاس دیر سے پہنچے۔ اب میں تفصیل سے کچھ نہیں لٹکتا، بس جو کچھ کہ دیا اسی میں غور کرتے رہیں۔

(۳۹) ایک بار فرمایا — میں ابتداء میں اسی طرح ذکر کی تعلیم دیتا ہوں۔ دینماز کے بعد تسبیح فاطمہؓ اور تیسرا کلمہ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْاَرْضَ اَللَّهُ اَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ اَوْ صبح و شام سو سو بار و در شریف واستغفار و تلاوت قرآن مع تصحیح قرأت اور نوافل میں تہجد کی تاکید اور اہل ذکر کے پاس جانا بلہ بدن ذکر کے ظلمت ہے اور ذکر بد و ن علم کے بہت بیہق فدوں کا دروازہ ہے۔

(۴۰) ایک بار فرمایا — خواب، نیڑت کا چہیا الیسوں حصہ ہے بعض لوگوں کو خواب میں کچھ ایسی ترقی ہو لیتی ہے کہ ریاضت و مجاہدہ سے نہیں ہوئی کونکہ ان کو خواب میں علوم صحیحہ القا ہوتی ہیں جو نبوت کا حصہ ہے پھر ترقی کیوں نہ ہوگی (علم سے معرفت بڑھتی ہے اور معرفت سے قرب بڑھتا ہے۔ اسی لئے ارشاد ہے۔

پھر فرمایا — آج کل خواب میں مجھ پر علوم صحیحہ کا القا ہوتا ہے اس لئے کوشش کرو تجھے نیند زیادہ آئے (نشکی کی وجہ سے نیند کم ہونے لگی تھی تو میں نے حکیم صاحب اور ڈاکٹر کے مشورے سے سر میں تیل کی مالش کرائی جس سے نیند میں ترقی ہو گئی) آپ نے فرمایا کہ اس تبلیغ کا طریقہ بھی مجھ پر خواب میں

منکشف ہوا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

**كُنْتُمْ خَيْرًا مَّا تَعْلَمُونَ أَخْرَجَتِ اللَّهُنَّاسِ تَأْمُرُونَ
بِالْمُعْرُوفِ وَتَنْهَاوُنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ**

کی تفسیر خواب میں القابوئی کہ تم (یعنی امت مسلم) مثل انبیاء علیہم السلام کے نوگوں کے لئے ظاہر کئے گئے ہو (اور اس مطلب کو اخراجت سے تعبیر کرنے میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ایک جگہ جم کر کام ہو گا بلکہ در بد نکلنے کی ضرورت ہو گی) تمہارا کام امر بالمعروف اور نبی عن المنکر ہے۔ اس کے بعد "تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ" فرمائے بتلا یا کیا ہے کہ اس امر بالمعروف سے خود تمہارے ایمان کو ترقی ہو گی (درینہ نفس ایمان کا حصول تو کنتم خیر امۃ" ہیچ معلوم ہو جاتا ہے) پس دوسروں کی بذات کا تصدیق کر دے نفع کی نیت کرو اور "أَخْرَجَتِ اللَّهُنَّاسِ" میں الناس سے مراد عرب نہیں بلکہ غیر عرب ہیں۔ کیونکہ عرب کے متعلق تو "لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصِيرِهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوْكِيلٍ" فرمائے بتلا دیا گیا تھا کہ ان کے متعلق بذات کا ارادہ ہو جکا ہے آپ ان کی زیادہ نکرنا کریں ماں "كُنْتُمْ خَيْرًا مَّا تَعْلَمُونَ" کے مخاطب اہل عرب ہیں اور "النَّاسُ" سے مراد دوسرے لوگ ہیں جو عرب نہیں چنانچہ اس کے بعد "وَلَوْ أَمِنَ أَهْلُ الْكِتَابَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ" اس پر قرینہ ہے اور یہاں لگانے کا خیر اللہ ہم "فَرِمَا يَا" لگانے کا خیر ایسا کہ نہیں فرمایا۔ کیونکہ مبلغ کو تبلیغ ہی سے اپنے ایمان کی تکمیل کا نہ لدھا حاصل ہو جاتا ہے۔ خواہ مخاطب تبoul کرے یا نہ کرے۔ اگر مخاطب

تبليغ کا اثر قبول کر کے ايمان لے آئے تو اس کا اپنا بھی فائدہ ہو گا۔ مبلغ کا فائدہ اس پر موقوف نہیں۔

(۵) ایک بار فرمایا۔ زکوٰۃ کا درجہ مددی سے مکتبے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ حرام تھا، مددی حرام نہ تھا۔ اور اگرچہ زکوٰۃ فرض ہے اور مددی سنت ہے، مگر بعض رفعت سنت کا اجر فرض سے برٹھ جاتا ہے۔ جیسے ابتداءً سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا فرض ہے مگر ابتداءً سلام جواب سے بہتر ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے مگر اس کا ثمرہ تطہیر مال ہے اور مددی گو سنت ہے مگر اس کا ثمرہ تطہیر قلبِ سلم ہے تو ثمرہ کے لحاظ سے یہ افضل ہے کیونکہ تطہیر مال سے قلبِ سلم کا درجہ بڑھا گوا ہے۔ اور زکوٰۃ سے بھی اگرچہ سماں حاجتمند کی تطہیر قلب ہو جاتی ہے مگر مقصود انہیں بلکہ تبعاعاً حاصل ہو جاتی ہے اور مددی سے اصل مقصود ہی تطہیر قلبِ سلم ہے۔ پھر فرمایا کہ زکوٰۃ دینے والوں پر مفقد مصرف لازم ہے۔ جیسے نہ از پڑھنے والے پر پاک پانی کا تلاش کرنا لازم ہے اور صحیح مصرف زکوٰۃ وہ ہے جس میں زکوٰۃ کا روپیہ لینے سے طمع مال پیدا نہ ہو۔ شریعت کا زکوٰۃ فرض کرنے سے ہرگز یہ مقصود نہیں غریب مسلمانوں میں مال کی حرص و طمع پیدا ہو جائے کرلوگوں کی خیرات و زکوٰۃ کے منظراً مکریں پس جو شخص اللہ پر بکھرو سکر کے صبر اختیار کرتا ہے جس قدر وہ صبر و تولکرے گا اسی قدر اہل اموال پر اس کے صبر کے اس کی امداد لازم ہوتی ہے، چنانچہ ارشاد ہے:-

(۲) یہ کہ وہ ہمارے دینی کاموں کی نگرانی کرنے والے ہیں۔
 (۳) ان کے ضروریات کے تفقد کے لئے کیوں کہ اگر دسرے مسازان
 ان کی دینی ضرورتوں کا تفقد کر کے ان ضرورتوں کو پورا کر دیں جن کو اہل
 اموال پورا کر سکتے ہیں تو علماء اپنی ضرورتوں میں وقت صرف کرنے سے
 نجک جائیں گے اور وہ وقت بھی خدمتِ علم و دین میں خرچ کریں گے تو اہل اموال
 کو ان کے ان اعمال کا ثواب ملتے گا۔

مگر عام مسلمانوں کو چاہیئے کہ معتمد علماء کی تبریزت اور نگرانی میں
 علماء کی خدمت کا فرض ادا کریں کیوں ان کو خود اس کا علم نہیں ہو سکتا کون
 زیادہ مستحقِ امداد ہے کون کم (اور اگر کسی کو خود اپنے تفقد سے اس کا علم
 ہو سکے تو وہ خود تفقد کرے)

۵۳ فرمایا — مسلمان دعاوں سے بہت غافل ہیں اور جو کرتے
 بھی ہیں ان کو دعا کی حقیقت معلوم نہیں مسلمانوں کے سامنے دعا کی حقیقت
 کو واضح کرنا چاہیئے۔

دعا کی حقیقت ہے اپنی حاجتوں کو بلند بارگاہ میں
 پیش کرنا اپس جتنی بلند وہ بارگاہ ہے آپنی ہی رعاؤں
 کے وقت دل کو جو عن کرنا اور الفاظ دعا کو تضرع و زاری
 سے ادا کرنا چاہیئے اور تینی وازعات کے ساتھ دعا کرنا
 چاہیئے کہ ضرور دعا قبول ہوگی، کیونکہ جس سے مانگا جا رہا
 ہے وہ بہت سخنی اور کریم ہے، اپنے بندوں پر حیم ہے زمین پر

۴۸ **للْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصِرُوا فِي سُبُّلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِعُونَ ضَرَبًا فِي الْأَرْضِ يُكْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفَفِ۔**
 تو صحیح مصرفِ زکوٰۃ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں لگئے ہوئے ہیں اور صبر سے
 اللہ پر بھروسہ کئے ہوئے ہیں، کسی سے سوال نہیں کرتے زکسی سے طمع رکھتے
 ہیں۔ مکار آج کل اہل اموال پیشہ و رسانلوں کو زکوٰۃ دے کر سمجھ لیتے ہیں زکوٰۃ
 ادا ہو گئی۔ حالانکوہ تو پہلی زکوٰۃ کو بھی کھو دیتی ہے بھی وجہ ہے کہ آج کل زکوٰۃ
 ادا کرنے کے بعد بھی اموال میں برکت نہیں۔ حالانکہ قطعی و عده ہے کہ زکوٰۃ سے
 مال میں برکت ہوتی ہے لہس جو لوگ زکوٰۃ کے بعد اپنے مال میں برکت کا
 ثابتہ رکریں ان کو سمجھ لیتا چاہیئے کہ زکوٰۃ مصرف میں نہ ری گئی اور انہوں
 نے تفقد کا نہیں کیا۔

۵۴ ایک بار فرمایا — مسلمانوں کو علماء کی خدمت چار نیتوں سے
 کرنا چاہیئے۔

(۱) اسلام کی جہت سے چنانچہ بعض اسلام کی وجہ سے کوئی مسلمان
 کسی مسلمان کی زیارت کو جائے یعنی بعض حبۃ اللہ ملاقات کرے
 تو سرہنما فرشتے اس کے پاؤں تسلی اپنے پڑا اور بازوں پر بھاریتے ہیں توجہ
 مطلقاً مسلمان کی زیارت میں یہ فضیلت ہے تو علماء کی زیارت میں بھی
 یہ فضیلت ضروری ہے۔

(۲) یہ کہ ان قلوبِ اجاجامِ عالمِ نبوت ہیں اس جہت سے
 بھی وہ قابل تعظیم اور لائقِ خدمت ہیں۔

اسمان کے سب خزانے اسی کے قبضہ تدریث میں ہیں؟

(۵۷) ایک بار فرمایا کہ — جو دنور سہار نپور، دیوبند وغیرہ تبلیغ کے لئے جا رہے ہیں ان کے ہمراہ تجارتی کے خطوط اگر دیئے جائیں جن میں نیازمندانہ اذازیں حضرات علماء سے عرض کی جائے کہ یہ وفور عوام میں تبلیغ کے لئے حاضر ہو رہے ہیں۔ آپ حضرات کا وفات بہت قیمتی ہیں اگر ان میں سے کچھ وقت اس قافلہ کی سرپرستی میں دے سکیں جس میں آپ کا اور طلباء کا حرج نہ ہو تو اس کی سرپرستی فرمائیں اور طلباء کو اس کام میں اپنی نگرانی میں ساتھ لیں۔ طلباء کو از خود بدین اساندہ کے لگانے کے اس کام میں حصہ نہ لینا چاہیے۔ اور قافلہ والوں کو یعنی وفوڈ تبلیغ کو نصیحت کی جائے کہ اگر حضرات علماء توجہ میں کمی کریں تو ان کے دلوں میں علماء پر اعتراض نہ آنے پائے۔ بلکہ یہ تمجھیں کہ علماء ہم سے بھی زیادہ اس کام میں مشغول ہیں وہ راؤں کو کبھی خدمت علم میں مشغول رہتے ہیں جبکہ دوسرے آرام کی نیند سوتے ہیں اور ان کی عدم توجہ کو اپنی کوتاہی پر محول کریں کہ ہم نے ان کے پاس آمد و رفت کم کی بے اس لئے وہ ہم سے زیادہ ان لوگوں پر متوجہ ہیں جو سالہا سال کے لئے ان کے پاس آپڑے ہیں۔ پھر فرمایا:-

ایک عامی مسلمان کی طرف سے بھی بلا وجہ بدگانی بلاکت میں ڈالنے والی ہے اور علماء پر اعتراض تو بہت سخت چیز ہے۔

پھر فرمایا — ہمارے طریقہ تبلیغ میں عزیز مسلم اور احترام علماء بنیاری چیز ہے۔ ہر مسلمان کی بوجہ اسلام کے عزت کرنا چاہیے، اور علماء کا بوجہ

علم دین کے بہت احترام کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ:-

علم اور زکر کا کام ابھی تک ہمارے مبلغین کے قبضہ میں نہیں آیا۔ اس کی مجھے بڑی فکر ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو اپنے علم اور اپنے ذکر کے پاس بھیجا جائے کہ ان کی سرپرستی میں تبلیغ بھی کریں اور ان کے علم و صحبت سے کبھی مستفید ہوں۔

(۵۵) ایک دن میں آنے والے ہمسانوں سے گفتگو میں زیادہ مشغول ہوا مولانا کی خدمت میں زیادہ نہ بیٹھا ظہر کے بعد حاضر خدمت ہوا تو فرمایا:-
”تم کو زیادہ میرے پاس رہنا چاہیے؟“

عرض کیا کہ آج آنے والوں کا زیادہ جموم تھا میں نے ان کو اپنے پاس رکھا اور تبلیغ پر ان سے باقیں کرتا رہتا کہ آپ کے پاس زیادہ جموم نہ ہو اور آپ کو زیادہ بولنا نہ پڑے۔ فرمایا:-

”اس کی بھی یہی صورت تھی کہ تم میرے پاس رہتے میں تم سے دل کی بات کرتا رہتا، تم دوسروں کو پہنچا دیتے۔ اس طرح میرے دل کا کائنات تو نکل جاتا تاکہ میرے پاس رہو، میری باتوں کو سنتے رہو اور دوسروں کو پہنچا دو تاکہ مجھے کسی سے خطاب نہ کرنا پڑے۔ بعضی لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ ہم مجھ کو بولنے نہ دیں گے۔ مگر جب تک میرے دل کا نثار نکل جائے میں کیسے چہ ہو جاؤں، میں ہرگز چہ نہ ہوں گا، چاہے مر جاؤں۔“

(۵۶) ایک بار فرمایا — حضرت مولانا تھانوی (رحمۃ اللہ علیہ) نے بہت برا کام کیا ہے بس میراڑی یہ چاہتا ہے کہ تعلیم تو ان کی ہو اور طریقہ تبلیغ میرا

ہو کہ اس طرح ان کی تعلیم عام ہو جائے گی۔ پھر فرمایا:

وَعَظَّ مِنْ أَعْلَامِ شَرِيعَةٍ كَمَا لَعَظَّ مَصَاحِبُهُ عَلَى بَيَانِ نَزَارَةٍ بِسَبَبِ تَبَيَّنِ حَرَقَهُ كَمَا لَوْكُونَ كَوْتَلِيْمَ كَجَائِيْهُ۔ اِيكَيْتَ يَرْكَهُ عَمَلَ مِنْ رِضَائِهِ حَقَّ تَكَادِيْهُ قَصِيدَهُ كَرِيسَ اَوْ آخَرَتَ كَالِيقِينَ رَكَهِينَ، جَوْعَلَ بَهِيْرَهُ مِنْ رِضَائِهِ حَقَّ كَهُ لَيَهُ اَوْ رِيْقِينَ آخَرَتَ كَسَاتِهِ ہو کہ يَهُ آخَرَتَ مِنْ مَفِيدَهُ مُوكَاهَهُ اَهَانَ اَسَ سَعَيْهُ ثَوابَهُ طَهَّا

يَا عَذَابَ دَفْعَهُ ہو گا۔ اس کے ساتھ کسی ایسے نفع کا قصد نہ ہو جو موت سے سے پَسْطِيلَهُ زَيَادَهُ حَاصِلَهُ وَالاَهُو، وَهُ تُورَنَسَجَّهُ کَطُورَپَرَخُورَهُ حَاصِلَهُ ہو جلتے ہیں رہ مقصود نہیں ہیں۔ گوان کا حصول یقینی ہے اور اس کا یقین رکھنا بھی لازم ہے مگر عمل سے ان کا تصور نہ کیا جائے۔ پھر فرمایا، ہاں، جس جگہ اس کی ضرورت ہو رہا ہے اسرار و مصالح کے بیان کا مضائقہ بھی نہیں مگر ہر جگہ بیان نہ کیا جائے۔

۵۷) ایک بار فرمایا — حضرت مولانا تھا انوی (رحمۃ اللہ علیہ) کے لوگوں کی مجھے بہت قدر ہے کیونکہ وہ قریب العہد میں اسی وجہ سے تمیری ہاتین جلدی سمجھ جلتے ہو۔ مولانا کی ہاتین سن چکے ہوا در تازہ سنی ہوئی ہیں۔ پھر فرمایا، تمہاری وجہ سے میرے کام میں بہت برکت ہوئی۔ میرا جی بہت خوش ہوا۔ پھر بہت رعائیں دیں اور فرمایا تم خود بھی رورو کراس نعمت کا شکر کرو۔

اللَّهُمَّ مَا اصْبَحَتْ بِيْ اُوْ اَمْسَتْ بِيْ مِنْ نِعْمَةٍ
أُوْبَأَحَدَ مِنْ خَلْقِكَ فِيمَا كُنْتَ وَهُدَاكَ لَا شَرِيكَ
لَكَ لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ۔

۵۸) فرمایا — تبلیغ کے کام کے لئے سادات کو زیادہ کوشش کے ساتھ اٹھایا جائے اور اگے بڑھایا جائے۔ حدیث "ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترقی اهل بُیُتِی" کا یہی مقتضا ہے۔ ان بزرگوں سے دین کا کام پسلے بھی بہت ہوا ہے اور آمنہ بھی انہی سے زیادہ امید ہے۔

۵۹) ایک دن فرمایا — کسی مسلمان کو کسی سے اللہ کے لئے محبت ہوایا اس سے کسی مسلمان کو واللہ کے لئے سچی محبت ہو تو یہ محبت اور حُسْن ظُنْ اُخْرَت کے لئے ذخیرہ ہے۔ مسلمانوں کو مجھ سے جو محبت ہے اس سے کچھ امید ہوتی ہے انشا اللہ عز و جل ہاں بھی پر رہ پوشی ہو جائے گی۔

پھر فرمایا — اپنی تھی دستی کا یقین ہی کامیابی ہے کوئی بھی اپنے عمل سے کامیاب نہ ہو گا۔ حُضُنَ اللہ کے فضل سے کامیاب ہو گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ بِعِلْمِهِ قَالَ الْوَالِانْتَ
بِإِسْلَامِ اللَّهِ قَالَ الْوَانِ الْأَنْ يَتَغَمَّدُ فِي اللَّهِ

بِرْحَمَتِهِ

یہ حدیث پڑھ کر مولانا خود بھی روئے اور دوسروں کو بھی رلایا۔

۶۰) ایک بار فرمایا — مولانا! علماء اس طرف نہیں آتے ہیں، کیا کر دو؟ ہائے اللہ امیں کیا کرو؟ عرض کیا، سب آجائیں گے۔ آپ دعا کریں۔ فرمایا میں تو دعا و بھی نہیں کر سکتا تم ہی دعا کرو۔ پھر پاشعار ہمچ استغفار اللہ من قول بلا عمل : لَقَدْ نَسِيْتَ بِهِ نَسْلَ الذِّيْ عَقَمَ

۵۵

کے نام لکھوائے ہیں جو طامع اور حریص نہیں اگر ان کو زکوٰۃ ری جائے تو ان میں حرص و طمع پیدا نہ ہوگی اور وہ تو گلائی اللہ تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے ہیں ان کی امداد بہت ضروری ہے۔ اہل اموال کو ایسے لوگوں کا لفظ دکرنا چاہیے کہ کس کو کتنی ضرورت ہے۔ یہ جو پیشہ ور سائلوں اور عام چندہ مانگنے والوں کو زکوٰۃ دیتے ہیں با اوقات اس سے ان کی زکوٰۃ مصرف پر نہیں ہوا کرتیں۔

۴۳

فرمایا — علم سے عمل پیدا ہونا چاہیئے اور عمل سے ذکر پیدا ہونا چاہیئے جبکہ علم علم ہے اور عمل عمل ہے۔ اگر علم سے عمل پیدا نہ ہو تو سارے ظلمت ہے اور عمل سے اللہ کی یادِ دل میں نہ پیدا ہوئی تو چیز پہاہے اور ذکر بلا علم فتنہ ہے۔

۴۴

فرمایا — لوگوں کو ہدایہ، صدقہ اور قرض کے فضائل و اقعات صحابہ سے بتلانا چاہیئے۔ صحابہ فاضل مزدوری کر کر کے صدقہ کرتے تھے ان میں صرف اغذیا ہی صدقہ نہیں کرتے تھے بلکہ بھی مزدوری کر کر کے کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کرتے تھے۔ کیونکہ صدقہ کے فضائل ان کی نظر میں تھے اور جب صدقہ کا یہ درج ہے تو ہدایہ تو اس سے کبھی افضل ہے۔ اسی طرح قرض دینے کے کبھی بہت فضائل ہیں۔ مثلاً جس وقت قرض کی مدت پوری ہو جائے اس کے بعد تنگ دست مقرض کو اگر مہلت دی گئی، تقادار نکیا گیا تو ہر دن صدقہ کا ثواب ملتا ہے۔

۴۵

فرمایا — مجھے اپنے اوپر استدرج کا خوف ہے، میں نے عرض کیا

۵۲

ظلمت سنتہ من اجی الظلام لے: ان اشتکت قدماً ان الضمن در
اس کے بعد آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا تصدیقہ برداہ ہمارے یہاں
نصاب علماء میں داخل ہے مگر ادبیت کے لحاظ سے نہیں بلکہ رقتِ قلب اور
زیارتِ محبتِ نبویت کے لئے داخل کیا گیا ہے۔

۴۱

فرمایا — اسلام میں ایک تو وسعت کا درج ہے۔ یہ وسعت
تو اتنی ہے کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو جانا، دارالاسلام میں پیدا ہونا، خبر الجہن
کا تابع ہونا بھی مسلمان شمار کئے جانے کے لئے کافی ہے اور اس وسعت
کے ساتھ مخلوق کو اس میں داخل کرنے کے بعد پھر حتی الواسع اس کو نکلنے
بھی نہیں دیتے کہ اگر کسی کے کلام میں ننانوئے وجہ کفر موجود ہوں اور
ایک وجہ اسلام کی ہو تو اس کو مسلمان ہی کہا جائے گا۔ مگر یہ حقیقی اسلام
نہیں بلکہ یہ رسمي ہے۔ حقیقی اسلام یہ ہے کہ مسلمان میں لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ كَوْنِيْتُ يَا أَعْلَمُ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کا اعتقاد
کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بندگی کا عزم واراہہ دل میں پیدا ہو، معبود کے راضی
کرنے کی فکر دل کو لگ جائے۔ ہر وقت یہ دھن رہے کہ ہائے دھن مجھے
سے راضی ہے یا نہیں؟

۴۲

فرمایا — دو چیزوں کا مجھے بڑا فکر ہے ان کا اہتمام کیا جائے
ایک ذکر کا کہاںی جماعت میں اس کی کمی پار ہا ہوں، ان کو ذکر بتلایا جائے۔
دوسرے اہل اموال کو مصرف زکوٰۃ سمجھایا جائے۔ ان کی زکوٰۃ میں اکثر بہادر
جاری ہیں۔ مصرف میں خرج نہیں ہوتیں۔ میں نے ایسے چالیس اڈیوں

کیہ خوف علیں ایمان ہے (امام حسن بصریؓ کا ارشاد ہے کہ اپنے ادپر نفاق کا خوف ہو میں ہی کو ہوتا ہے) مگر جوانی میں خوف کا غالبہ اچھا ہے۔ اور بڑھاپے میں حُسنِ ظن باللہ اور رجاح کا غالبہ اچھا ہے۔ فرمایا ہاں صحیح ہے۔

قسط نمبر

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے وصال سے ٹھیک ایک سال پہلے حبیب لشنا اہمیں تکھتو اور کانپور کا ایک تبلیغی سفر فرمایا تھا یہ عاجز اس سفر میں ہر کاب تھا قسط ہذا کے ملفوظات اسی سفر کے ہیں

۱۰۷۲

(۴۴) فرمایا — ہمارے اس تبلیغی کام میں حصہ لینے والوں کو چاہیئے کہ قرآن و حدیث میں رین کی دعوت و تبلیغ پر اجر و ثواب کے جو وعدے کئے گئے ہیں اور جن انعامات کی بشارت سنائی گئی ہے ان پر کامل یقین کرتے ہوئے انہی کی طمع و امید میں اس کام میں لگیں۔ اور اس کا بھی دھیان کیا کریں کہ ہماری ان حقیر کوششوں کے ذریعہ اللہ پاک جتنوں کو دین پر لگا دیں گے اور ہمارا اس سلسلے سے جو لوگ قیامت تک دین پر پڑیں گے اور وہ جو بھی نیک عمل کریں گے تو ان کے اعمال حسنہ کا جتنا ثواب ان کو ملے گا انشاء اللہ تعالیٰ ان تمام ثوابوں کے مجموع کے برابر اللہ پاک اپنے وعدہ کے مطابق ہم کو کبھی عطا فرمائیں گے، لہٰر طیکہ ہماری

نیت خالص اور ہمارا کام قابل قبول ہو۔

(۴۷) فرمایا — لوگوں کو حب اس تبلیغی کام کے لئے آمداد کرنا ہو تو وضاحت کے ساتھ اس کام میں لگنے کے مفاد اور اس کا اخروی اجر و ثواب بھی خوب تفصیل سے ان کو بتلواد (اور اس طرح بیان کرنے کی کوشش کرو کہ تھوڑی دیر کے لئے توجہت کا کچھ سہال ان کی آنکھوں کے سامنے آجائے۔ جیسا کہ قرآن مجید کا طریقہ ہے) اس کے بعد انشاء اللہ ان کے لئے یہ آسان ہو گا کہ اس کام میں مشغولی کی وجہ سے تھوڑے بہت دخیلی کاموں کے حرج اور نقصان کا جواندیشہ انہیں ہو گا وہ اس کو نظر انداز کر سکیں گے۔

(۴۸) فرمایا — تبلیغی گشت کے وقت میں اور خاص طور سے کسی فاطمہ کے وقت میں زکر و فکر میں مشغولی کے لئے جماعت کو جو تاکید کی جاتی ہے تو اس کا خاص منشایہ ہے کہ جس وقت ایک حقیقت کسی کو سمجھانے اور منوالے کی کوشش کی جائے تو بہت سے دلوں میں اس وقت اس حقیقت کی تصدیق اور اس کا یقین و اذعان ہو، اس کا اثر دوسرا کے قلب پر پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی قلوب میں بڑی طاقتیں رکھی ہیں۔ لوگ ان سے واقف نہیں ہیں۔

(۴۹) فرمایا — ذکر اللہ شریشیا طین سے بچنے کے لئے فلو اور حصن حصین ہے۔ لہذا جس قدر غلط اور بے ماحول میں تبلیغ کے لئے جایا جائے شیا طین جن و انس کے برے اثرات سے اپنی حفاظت کے لئے اُسی قدر زیادہ ذکر اللہ کا اہتمام کیا جائے۔

۷۰ ایک دینی مدرسہ کے طلباء کی ایک جماعت سے خطاب کا آغاز اس سوال سے کیا۔

"بِسْلَادُّ تَمْ كُونْ هُو؟" (پھر خود ہی فرمایا)

تم ہماناں خدا اور رسول ہو، ہمان اگر میزان کو ایذا بہپنی کئے تو اس کی ایذا و رسول کی ایذا سے بہت زیادہ تکلیف رہ ہوتی ہے۔ پس اگر تم "طالب علم" ہو کر خدا اور رسولؐ کی رضاکے کام نکرو اور غلط را ہوں پس چلو تو سمجھ لو کہ تم اللہ اور رسولؐ کے ستانے والے ان کے ہمان ہو۔"

۷۱ انہیں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

"دیکھو، شیطان بڑا پلاک اور عیار ہے۔ دہ تاک کرمای پر گرتا ہے آپ لوگ علم دین سیکھنے کے لئے گھروں سے نکل پڑے تو شیطان اس سے تو مایوس ہو گیا کہ آپ نے جاہل رہیں اس لئے اس نے جاہل رکھنے کی کوشش چھوڑ کر اب یہ طے کر لیا کہ ان کو پڑھنے دو مگر کام میں اپنے لگانے کی کوشش کرو۔ میری یہ تحیر کی شیطان کی اس کوشش کے مقابلے میں "جِلْقیل" ہے جس کا منظہ یہ ہے کہ خدا کے بندوں کو شیطان کی راہ سے اٹھا کر اللہ کی راہ پر ڈال دوں اور اللہ ہی کے کام میں لگا دوں، بتاؤ کیا فیصلہ ہے؟"

۷۲ اسی خطاب کے سلسلے میں فرمایا:

جن لوگوں کے حقوقِ خدمت تم لوگوں پر میں اور جن کی اطاعت کرنا تھا اے لئے ضروری ہے ان کی خدمت و راحت کا انتظام کر کے اور ان کو مطمئن کر کے اس کام میں نکلو اور اپنا روتیہ ایسا کھو کر تمہارے علم و صلاح کے ذوق

میں ترقی دیکھ کر تمہارے سر پرست اس مشغله میں تمہارے لگنے سے نہ صرف یہ کرمطمئن ہوں بلکہ خواہاں اور راغب ہو جائیں۔

۷۲ فرمایا۔ دین کے کاموں میں اصل مطلوب اور مقصود تو ہونا چاہیے صرف رضلے الہی اور اجر اخروی، اور دنیا میں جن انعامات و برکات کا وعدہ کیا گیا ہے۔ مثلاً جین کی اور عزت کی زندگی، یا مثلاً استخلاف اور تسلیم فی الارض، سوریہ مطلوب نہیں بلکہ موعود ہیں یعنی ہم کو جو کچھ کرنا ہے وہ کرنا تو چاہیے۔ صرف رضاۓ الہی اور فلاح اخروی کے لئے، مگر یقین رکھنا چاہیے اللہ کے ان مواعید پر کھی (بلکہ ان کے لئے دعائیں بھی کرنی چاہیں) مگر ان کو اپنی عبارت و اطاعت کا اصل مقصود نہیں بنانا چاہیے۔

موعود اور مطلوب کے اس فرق کو اپ لوگ اس مثال سے شاید اچھی طرح سمجھ سکیں گے۔ نکاح و شادی سے مقصود تو ہیوی کا حصول اور اس سے ت Mitsع ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ آتی ہے جہیز دغیرہ بھی جو عُرف موعود ہوتا ہے۔ لیکن ایسا بے قوف دنیا میں شایدی کوئی ہو جو شادی ہی صرف جہیز حاصل کرنے کے لئے کرے۔ اور اگر بالفرض کوئی ایسا کرے اور ہیوی کو معلوم ہو جائے کہ اس نے شادی میرے لئے نہیں بلکہ میرے ساتھ آنے والے جہیز کے لئے کہے تو سوچو کہ ہیوی کے دل میں اس کے لئے کتنی جگہ ہے گی۔

۷۳ فرمایا۔ انسان کا امتیاز اپنے ماسواد و سری مخلوقات سے زبان کی وجہ سے ہے۔ ہونا تو چاہیے یہ امتیاز خیری میں، لیکن ہوتا ہے یہ شر میں یعنی جس طرح انسان زبان کے صحیح استعمال اور اس سے اللہ کا اور دین کا کام

لینے کی وجہ سے خیر و سعادت میں فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اس زبان کو بے جا استعمال کرنے سے خنزیر اور کتنے جیسے جانوروں سے بھی بذریعہ ہو جاتا ہے۔ وہلیکب النّاس علیٰ هناخر هم الاحصائی السنت ہم (حدیث)

(٤٥) چند روز پہلے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا دصال ہوا تھا، حضرت مدرسہ سے تعلق بپت رکھنے والے ایک صاحب زیارت کے لئے تشریف لائے۔ راقم سطور نے ان کا تعارف کرایا۔ اس پر حضرت نے فرمایا : « جن حضرات کا حلقة محبت و تعلق اتنا وسیع ہو جتنا کہ ہمارے حضرت تھانوی قدس سرہ کا تھا، چاہیے کہ ان کی تعزیت عامت کی نکر کی جائے۔ میراجی چاہتا ہے کہ اس وقت حضرت کے تمام تعلق رکھنے والوں کی تعزیت کی جائے۔ اور خاص کر یہ مضمون آج کل پھیلایا جائے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق بڑھانے، حضرت کی برکات سے استفادہ کرنے اور ساتھ ہی حضرت کے ترقی درجات کی کوششوں میں حصہ لینے اور حضرت کی روح کی مرسوں کو بڑھانے کا سب سے اعلیٰ اور محکم ذریعہ یہ ہے کہ حضرت کی تعلیمات حق اور مدد ایت پر استقامت کی جائے اور ان کو زیارہ سے پھیلانے کی کوشش کی جائے، جتنا چنان حضرت کی مدد ایات پر کوئی چلے گا اتنا ہی یقاعدہ من دعے الی حسنة فلہ اجرها و اجر من عملها۔ (حدیث) حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے سرمایہ حسنات اور درجات عالیہ میں ترقی ہوگی۔

پھر فرمایا :-

” یہ ایصالِ ثواب کا اعلیٰ طریقہ ہے ”

(٤٦) فرمایا — اگر کوئی شخص اپنے کو تسلیع کا اہل نہیں سمجھتا ہے تو اس کو بیٹھا رہنا ہرگز نہیں چلے گی بلکہ اس کو تو کام میں لگنے اور دوسروں کو اٹھانے کے اور زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ بعض رفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا خیر چند نااہلوں کی وجہ سے کسی اہل تک پہنچ جاتا ہے اور پھر وہ پہلتا پھولتا ہے اور پھر اس کا اجر بمقابلہ

من دعے الی حسنة فلہ اجرها و اجر من عمل بھا

و من سُنّۃِ الْاسْلَامِ سُنّۃِ حُسْنَةِ فلہ اجرها و اجر

من عمل بھا (حدیث)

ان نااہلوں کو بھی پورا پہنچ جاتا ہے۔ جو اس کام کے اس اہل تک پہنچنے کا ذریعہ بنے۔ پس جو نااہل ہو اس کو اس کام میں اور زیادہ زور سے لگنا ضروری ہے میں سبھی اپنے کو جو نکنا اہل سمجھتا ہوں اس لئے اس میں منہک ہوں کہ شاید اللہ میری اس کوشش سے کام کو اس کے کسی اہل تک پہنچا دے اور پھر اس کام کا جو اعلیٰ اجر اللہ پاک کے بہاں ہو وہ بھی مجھے عطا فرمادیا جائے۔

(٤٧) فرمایا — حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ” من رای منکم منکرًا فلیغیرہ بسیدہ فان لم یستطعم فبلسانہ نان لم یستطعم فقبلبہ ” کے آخری جز فقبلبہ کا ایک درجہ اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ازالۃ منکر کے لئے اصحاب قلوب بیتی قلبی قوتوں کو استعمال کریں، یعنی ہمت دلوجہ کو کام میں لا لیں۔

پھر اسی ذیل میں فرمایا۔ امام عبد الوہاب شیرافی نے مقام قطبیت حاصل کرنے کی ایک تدبیر کو بھی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کی زمین پر جہاں جہاں جو جو معرفات معنی ہوئے ہیں اور مردہ ہو گئے ہیں ان کا نصویر کرے پھر دل میں ان کے مٹنے کا ایک درمحسوس کرے اور پورے الحاح اور تضرع کے ساتھ ان کے زندہ اور راجح کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور اپنی قلبی قوت کو بھی ان کے احیاء کے لئے استعمال کرے۔ اسی طرح جہاں جہاں جو جو منکرات پھیلے ہوئے ہیں ان کا بھی دھیان کرے اور پھر ان کے فروع کی وجہ سے اپنے اندر سوزش اور دکھ محسوس کرے۔ پھر پورے تضرع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ان کو مٹانے کے لئے دعا کرے اور اپنی ہمت و نوچہ کو بھی ان کے استیصال کے لئے استعمال کرے۔ امام عبد الوہاب شیرافی نے لکھا ہے کہ ”جو شخص ایسا کرتا ہے گا انشا اللہ وہ قطب مصروف گا۔“

۷۸ فرمایا — ہر موقع کا اصلی اور اعلیٰ ذکر را اس موقع کے متعلق احکام خداوندی کی رعایت ہے ”لَا تَهْكُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ وَلَا أُدْلِذُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ“، پس جو شخص اولاد کے ساتھ برخادے میں اور خرید و فروخت جیسے معاملات میں احکام خداوندی کی اطاعت اور حدود اللہ کی رعایت کرتا ہے۔ وہ ان مشاغل میں مشغول ہوتے ہوئے بھی اللہ کا ذاکر ہے۔

۷۹ پھر فرمایا — جنت متواضعین ہی کے لئے ہے۔ انسان میں بکر کا کوئی حصہ ہے تو بدلے اس کو جہنم میں ڈال کر کھونکا جائے گا۔ جب خالص تواضع

رہ جائے گا اب وہ جنت میں جائے گا۔ بہر حال بکر کے ساتھ کوئی آدمی جنت میں نہیں جائے گا

۸۰ فرمایا — ہمارے بزرگوں نے غیر مالکین کو صوفیاء کی کتابوں کے مطالعے سے منع کیا ہے۔ ماں جو مالک کسی محقق شیعہ کے زیر تربیت ہو وہ مطالعہ کرے تو مخالف نہیں۔

۸۱ مولانا مرحوم نے اسی لکھنؤ کے سفریں ایک مشہور عالم دین کو بھی

جماعت کے ساتھ تکمیل تشریف لانے کی دعوت دلوائی تھی۔ وہ

صاحب تشریف لے آئے مولانے ان سے ایک موقع پر فرمایا:

”حضرت امیں نے آپ کو وعظ اکملوں کے لئے تکلیف نہیں دی ہے۔ ہمارے اس کام میں وعظ اوقطر بر تو محض ضمی خیز ہے۔ آپ جیسے حضرات کو سفر کی تکلیف میں صرف اس لئے دیتا ہوں کہ اپنی جگہ پر اور اپنے مشاغل میں رہتے ہوئے تو میر سا کام کو سمجھنے اور اس پر غور کرنے کے لئے آپ حضرات کو مہلت نہیں ملتی لیکن جب سفر کی وجہ سے آپ اپنے مشاغل اور اپنے ماحول سے الگ کر لئے جاتے ہیں تو پھر اطمینان سے میری سُن بھی سکتے ہیں اور جماعت کے کام کو سچشم خود دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کے بارے میں غور و فکر بھی فرماسکتے ہیں۔“

۸۲ فرمایا — لوگوں کو ترغیب دو کہ وہ دین سیکھنے اسکا ہانے اور دین کو پھیلانے کے واسطے اپنے خرچ پر اپنے گھروں سے نکلیں۔ اگر ان میں اس کی باشکل استطاعت نہ ہو یا وہ اتنے ایشار پر آمادہ نہ ہوں تو پھر حقیقی

الوسع انہی کے ماحول سے اس کا انتظام کردا دراگہ ریجھی نہ ہو سکے تو پھر دوسری جگہ سے ہی انتظام کردو۔ لیکن یہ بہر حال ملعوظاً رہے کہ ان میں اشرف نفس پیدا نہ ہو جائے۔ یہ چیز (یعنی اپنی حاجات میں بجائے اللہ کے بندوں پر نظر ہونا جس کا نام اشرف ہے) ایمان کی جڑوں کو کوکھلا کر دینے والی ہے۔ نیزان نکلنے والوں کو یہ بھی اچھی طرح سمجھادیا جائے کہ اس راہ کی تکلیفوں، بھوک، پیاس وغیرہ کو اللہ کی رحمت سمجھیں، اس راستہ میں یہ تکالیف تو انبیاء اور صدِ پقین اور مقریبین کی غذائیں ہیں۔

۸۳ فرمایا — دوستو! ابھی کام کا وقت باقی ہے۔ عنقریب دین کے لئے روز بردست خطرے پیش آئیں گے ایک تحریک شدھی کی طرح کفر کی تبلیغی کوشش جو جاہل عوام میں ہوگی اور دوسرا خطرہ ہے الحاد و دہریت کا جو مغربی حکومت و سیاست کے ساتھ ساتھ آ رہا ہے۔ یہ رونوں گمراہیاں سیلا کی طرح آئیں گی۔ جو کچھ کرنا ہے ان کے آئے سے ہمہلے پہلے کرو۔

۸۴ فرمایا — دین کی عمومی تعلیم و تربیت کا جو طریقہ ہم اپنی اس تحریک کے ذریعہ راجح کرنا چاہتے ہیں صرف وہی طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں راجح تھا اور اسی طرز سے وہاں عام طور پر دین سیکھا اور سکھا پا جاتا تھا بعد میں جو اور طریقے اس سلسلے میں ایجاد ہوئے مثلاً تصنیف و تالیف اور کتابی تعلیم وغیرہ، سوانح کو ضرورتِ حادثہ نے پیدا کیا مگر اب لوگوں نے صرف اسی کو اصل سمجھ لیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے طریقہ کو بالکل بھلا دیا ہے۔ حالانکہ اصل طریقہ وہی ہے اور علمومی پیمانہ پر تعلیم و تربیت صرف

اُسی طریقہ سے دی جا سکتی ہے۔

۸۵ فرمایا — مجھے جب بھی میوات جانا ہوتا ہے تو ہمیشہ اہل خیر اور ذکر کے شیع کے ساتھ جاتا ہوں۔ پھر بھی عمومی اختلاط سے قلب کی حالت اس قدر متغیر ہو جاتی ہے کہ جب تک اعتکاف کے ذریعہ اس کو غسل نہ رہوں یا چند روز کے لئے "سہارنپور" یا رائے پور کے خاص نجع یا خاص ماحول میں جا کر نہ رہوں، تدب اپنی حالت پر نہیں آتا۔

دوسروں سے کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے۔ دین کے کام کرنے والوں کو چاہیئے کا گشت اور چلت پھرت کے طبعی اثرات کو خلوتوں کے ذکر نہ کر کے ذریعہ دھویا کریں۔

۸۶ فرمایا — ہماری تبلیغ میں کام کرنے والوں کو تین طبقوں میں یعنی ہی مقاصد کے لئے خصوصیت سے جانا چاہیئے۔

(۱) علماء اور صلحاء کی خدمت میں رین سیکھنے اور دین کے اچھے اثرات پیش کے لئے۔

(۲) اپنے سے کم درجہ کے لوگوں میں دینی باتیں پھیلانے کے ذریعہ اپنی تکمیل اور اپنے دین میں رسوخ حاصل کرنے کے لئے۔

(۳) مختلف گروہوں میں ان کی متفرق خوبیاں جذب کرنے کے لئے۔

۸۷ ایک دن دعا کرتے ہوئے فرمایا :

اے اللہ، کافروں پر تیرے بندے ہونے کی حیثیت سے جو شفقت اور جو ترحم میں ہونا چاہا ہے اور اس کی وجہ سے جو حقوق ہم پر عائد ہوں گے ان کی ادائیگی کی توفیق کے ساتھ ان کے کفر سے ہمارے تلب میں پوری پوری نفرت اور کرامت پیدا کر۔

۸۸ فرمایا — اہل دین (علماء صلحی اور اس کام) (تبليغی و اصلاحی) جدوجہد میں شرکی کرنے اور ان کو راضی و مطمئن کرنے کی نکر زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اور جہاں ان کا اختلاف اور ناؤاری علم ہو وہاں ان کو معذور قرار دینے کے لئے ان کے حق میں اچھی تاویل کرنی چاہیے اور ان کی خدمتوں میں دینی استفادہ اور حصول برکات کے لئے حاضر ہوتے رہنا چاہیے۔

۸۹ فرمایا — نفسِ اسلام کی بھی اللہ کے یہاں قدُومیت ہے اگرچہ وہ فتن و فجور کے ساتھ ملا ہوا ہوا سی واسطے فاسق و فاجرمون بھی ایک نہ ایک وقت نخش دیا جائے گا پس ہمیں چاہیے کہ جس میں اسلام ادنیٰ درجہ میں موجود ہو اس کی بھی نسبتِ اسلام کی قدر کریں اور اس کو بھی اپنارہنی بھائی بھیں اور اسی حیثیت سے اس سے معاملہ کریں اور اس کے اندر جو فتن و عصیان موجود ہو اس کے لئے بھی اپنے آپ کو ذمہ دار گردانیں کہ ہماری غفلت کا بھی اس میں دخل ہے اور دین کی کوشش نہ کرنے کا ہی یہ نتیجہ ہے۔

۹۰ فرمایا — ہمارا کام دین کا بنیادی کام ہے اور ہماری تحریک درحقیقتِ ایمان کی تحریک ہے۔ آج کل عام طور سے جو اجتماعی کام ہوتے ہیں ان کو کرنے والے ایمان کی بنیاد کو قائم فرض کر کے امت کے اوپر کی تعمیر کرتے ہیں

اور اس پر کے درجہ کی ضروریات کی نکر کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک امت کی اذل ضرورت یہی ہے کہ ان کے تابوں میں پہلے صحیح ایمان کی روشنی پہنچ جائے۔

۹۱ فرمایا — ہمارے نزدیک اس وقت امت کی اصل بیماری رین کی طلب و قدر سے ان کے دلوں کا خالی ہونا ہے۔ اگر دین کی نکر و طلب ان کے اندر پیدا ہو جائے اور دین کی اہمیت کا شعور و احساس ان کے اندر زندہ ہو جائے تو ان کی اسلامیت دیکھتے دیکھتے سرسیز ہو جائے۔ ہماری اس تحریک کا اصل مقصد اس وقت بس دین کی طلب و قدر پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے نہ کہ صرف کلمہ اور نمازوں اور غیرہ کی تصحیح و تلقین۔

۹۲ فرمایا — ہمارے طریقہ کام میں دین کے واسطے جماعتوں کی شکل میں گھروں سے دور نکلنے کو بہت اہمیت ہے اس کا خاص فائدہ یہ ہے کہ آدمی اس کے ذریعہ اپنے دامنی اور جامد ماحول سے نکل کر ایک نئے صالح اور مستحکم ماحول میں آجائیں جس میں اس کے دینی جذبات کے نشوونما کا بہت بچھہ سامان ہوتا ہے نیز اس سفر و ہجرت کی وجہ سے جو طرح طرح کی تکلیفیں مشقتوں پیش آتی ہیں اور در بد رپھر نے میں جو زلتیں اللہ کے لئے برداشت کرنی ہوئی ہیں ان کی وجہ سے اللہ کی رحمت خاص طور سے متوجہ ہو جاتی ہے۔

”وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِيْنَا اللَّهُ دِيْنَهُمْ سُبْلُنَا“

اسی واسطے اس سفر و ہجرت کا زمانہ جس قدر طویل ہو گا اسی قدر مفید ہو گا۔

۹۳ فرمایا — یہ سفر و ہجرت کے سفر کے خصائص اپنے اندر رکھا ہے اور اس لئے ایسید کبھی دیسے ہی اجر کی ہے یہ اگرچہ قتال نہیں ہے مگر جہاد ہی

ان والپس ہرنے والے اصحابِ عزیمت کی مثال اُن مجاهدین فی سبیل اللہ کی سی ہے جو ایسے وقت میں میدانِ جہاد میں ڈالے رہیں جبکہ ان کے دائیں بائیں کے لوگ بھاگ کھڑے ہوں۔

(۸) یہ کبھی بتا دیا جائے کہ اس راہ میں بہت سے مکارہ (تکالیف و مصائب اور خلافِ مزاج امور) پیش آئیں گے اور آخرت میں اجران مکارہ ہی کی نسبت سے مٹے گا۔

قطعہ نمبر ۳

(۹۴) فرمایا۔ کبھی کبھی بیٹھ کر یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا اثر و سوچ کہاں کہاں ہے؟ اور کہاں کہاں ہماری دینی کوششیں نیچے خیز ہو سکتی ہیں؟ پھر غور کرنا چاہیئے کہ وہاں اس دینی دعوت کے پہلائی کی تدبیر کیا ہیں؟ اور کیا راستہ ہیں اختیار کرنا چاہیئے اور وہاں ہمارا نظامِ عمل کیا ہونا چاہیئے؟ پھر اسی سوچے ہوئے نقشے کے مطابق متوجہ اعلیٰ اللہ کامِ شروع کر دینا چاہیئے۔

(۹۵) فرمایا۔ جن جن حضرات کے متعلق یہ اندازہ ہو کہ تم اس کو اس طرف بغير اس کے متوجہ نہیں کر سکتے کہ پہلے ایک مرصدہ تک ان کی خدمت کر کے ان کے مزاج سے قرب اور مناسبت پیدا کریں تو پھر ہمیں ان کی خدمت ہی کرنا چاہیئے لیکن اس خدمت میں بھی اللہ کے کام میں ان کو لوگلنے کی نیت رکھنا چاہیئے اور امید کے ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیئے۔

کا یک ذرہ ضرور ہے جو بعض حیثیات سے اگر چقتاً سے کمتر ہے لیکن بعض حیثیات سے اس سے بھی اعلیٰ ہے مثلاً قتال میں شفا و نیفظ اور اطفاء شعلہ غصب کی صورت بھی ہے اور یہاں اللہ کے لئے صرف کظمِ عنیظ ہے اور اس کے دین کے لئے لوگوں کے تدمبوں میں پڑ کے اور ان کی منیں خوشامدیں کر کے بس ذمیل ہوتا ہے۔

(۹۶) فرمایا۔ یہ تحریک درحقیقت اپنے بہت بڑے درجہ کی ریاضت ہے۔ انسوں والوگ اس کی حقیقت کو سمجھتے نہیں۔

(۹۷) فرمایا۔ جو لوگ ہماری اس تبلیغ کی کام اور طریقہ سیکھنے کے لئے نظامِ الدین آنا چاہیں ان کو یہ چند ہائیں ضرور پہلے ہی سے اچھی طرح زہن نشین کرادی جائیں۔

(۱۱) زیادہ سے زیادہ وقت نکال کے آئیں۔

(ب) ایک دو ہی دفعہ کی آمد کو کافی نہ سمجھیں بلکہ آتے رہیں۔

(ج) یہ ارادہ کر کے آئیں کہ ”نظامِ الدین“ میں پڑا رہنا نہیں ہوگا بلکہ بذایت کے مطابق جابجا پھرنا ہوگا۔ ہاں اس اتنا میں کبھی کبھی نظامِ الدین رہنا بھی ہوگا۔

(د) یہ کبھی اچھی طرح ان کے ذہن نشین کرادی جائے کہ جس وقت انکے پکھر نقاوہ واپسی کا ارادہ کرنے لگیں اور ان کی دیکھا دیکھیں ان کے روں میں بھی واپسی کی خواہش ہونے لگے تو ایسے وقت میں اپنی خواہش پر زچلنے اور ہمت و عزیمت کے ساتھ کام میں لگے رہنے کا اجر بے حد و حساب ہے اور

اس طرح ان حضرات کو تمہاری تبلیغی مہم کی گھرائیوں اور وسعتوں کو سمجھنے اور اس کے اثرات و نتائج کا مشاہدہ کرنے کا بھی موقع مل جائے گا۔ اور پھر انشاء اللہ ان کو اس طرف بھی توجہ ہو جائے گی۔

۹۹ فرمایا — میں اگر کسی طبیب کو بھی علاج کے لئے بلا تا ہوں تو دراصل تبلیغی کام کو پیش نظر کہ کے بلا تا ہوں اور اس سے اپنا علاج کرانے کو اس کو اللہ کے کام میں لگانے کا بھانا بنانا چاہتا ہوں، اس لئے صرف ان ہی اطباء کو بلا نے کی اجازت دیتا ہوں جن سے اس دینی دعوت کے سلسلہ میں کوئی توقع اور گنجائش ہو۔

۱۰۰ فرمایا — میں اپنی صحت اور بقاءِ حیات کے لئے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ کر نماز پڑھنا تو جائز سمجھتا ہوں لیکن اس دینی کام کے قیام و بقاء پر زندگی کے خیال کو مقدم نہیں سمجھتا۔

۱۰۱ فرمایا — ہماری اس دعوت و تبلیغ کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ خطاب عام میں تو سختی برقرار جائے لیکن خطابِ خاص میں انتہائی نرمی بلکہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کی اصلاح کے لئے خطابِ عام ہی کیا جائے، حتیٰ کہ اگر اپنے کسی خاص ساتھی کی کوئی غلطی رکھی جائے تو حتیٰ الوسع اس کی اصلاح کی کوشش بھی خطابِ عام ہی کے ضمن میں کی جائے یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فام طریقہ تھا کہ خاص لوگوں کی فلسفیوں پر تنبیہ رکھی آپؐ مابال اتوام "کے عمومی عنوان سے فرماتے تھے — اور اگر خطابِ خاص ہی کی ضرورت سمجھی جائے تو علاوہ محبت اور نرمی کے اس بات کا بھی لحاظ رہے کہ فوراً اس کو زنگوں کا جائے۔

۹۸ فرمایا — بعض حضرات کو ہماری اس دعوت ایمان کی گھرائیاں معلوم نہ ہونے کی وجہ سے اس سے رکاذ نہیں ہے اور اس کے بجائے دین کے بعض ان احکام و مسائل کی ترویج کی کوشش کو زیادہ اہم سمجھتے ہیں جن میں مسلمانوں سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں مثلاً..... صاحب اور ان کے حلقہ کی نظر میں خاص طور پر شریعت کے فلاں فلاں احکام کی ترویج اور رسوم بد کی اصلاح بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے تو ایسے حضرات کے ساتھ طریقہ عمل یہ ہونا چاہیئے کہ میوات میں ان احکام و مسائل کی کوشش اور اصلاح رسوم کی سعی کے واپسے ہی ان کو اٹھایا جائے ابھی تک میوات میں ترک کی تقسیم کے بلکہ میں بھی بڑی کوتا ہی ہے۔ شریعت کے مطابق ترک تقسیم کرنے کا رواج بہت کم ہو سکا ہے ایسی ہی اور بھی بہت سی بڑی رسماں ابھی راجح ہیں۔ مثلاً ابھی تک گونہ میں شادی کرنے کا رواج نہیں ہوا ہے۔

تو..... صاحب اور ان کے متبوعین کو میوات میں ان ہی احکام کے پھیلانے کے واسطے اٹھایا جائے۔ اور ان کو یہ بتلایا جائے کہ یہ میواتی لوگ اس تبلیغی دعوت سے ایک درجہ میں مانوں ہو چکے ہیں اور کسی درجہ میں اس کو اپنا چکے ہیں پس اگر آپ ان کے اس تبلیغی کام کی تصوری سی بھی سر پرستی فرمائیں گے تو پھر انشاء اللہ آپؐ ان مخصوص اصلاحی مقاصد اور اصلاح رسوم کے کام میں ان سے آپؐ کو بہت مدد ملے گی اور ان کے ذریعہ آپؐ میوات میں ان احکام و مسائل کی ترویج اور رسومات جاہلیت کی اصلاح کا کام آسانی سے کر سکیں گے۔

ایسی صورت میں اکثر لوگوں کا نفس جواب رہی اور حجت بازی پر آمادہ ہو جاتا ہے لہذا اس وقت کو طالع ریا جائے، پھر وسرے مناسب وقت میں خلوص و حجت کے ساتھ اس کی غلطی پر اس کو متنبہ کیا جائے۔

(۱۰۲) فرمایا۔ اپنی اس تحریک کے زرعیہ ہم مر جگ کے علماء اور اہل دین اور دنیا داروں میں میل ملاپ اور صلح و آشتی کرنا چاہتے ہیں نیز خود علماء اور اہل دین کے مختلف حلقوں میں الفت و محبت اور تعاون دیگانگت کا پیدا کرنا اس سلسلہ میں ہمارے پیش نظر، بلکہ ہمارا ہم مقصد ہے اور یہ دینی دعوت ہی الشاد اللہ اس کا ذریعہ رسیلہ بنے گی۔ افراد اور جماعتوں میں اختلافات اغراض ہی کے اختلافات سے تو پیدا ہوتے اور ترقی کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کے تمام گروہوں کو دین کے کام میں لگانے اور خدمت دین کو ان کا سب سے اعلیٰ مقصور بنانے کی اس طرح کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے جذبات اور طریقہ عمل میں موافقت ہو جائے، هر فہمی چیز نفرتوں کو عبتوں میں بدل سکتی ہے۔ روشنخون میں صلح کرنے کا ذرا سوچو کر کتنا بڑا اجر ہے۔ پھر امت کے مختلف طبقوں اور گروہوں میں مصالحت کی کوشش کا جواہر ہو سکا اس کا کوئی کیا اندازہ کر سکتا ہے۔

(۱۰۳) فرمایا۔ ہمارے اس کام کو سمجھنے اور سیکھنے کے لئے صبح ترتیب یہ ہے کہ ہمیں اگر چند روز قیام کیا جائے اور یہاں کے رہنے والوں (تبیغ کے پرانے کارکنوں) سے باتیں کی جائیں اور صرف میری ملاقات اور بمحض سے ہی باتیں کرنے کے درپے نہ ہو جائے۔ ہاں جس وقت میں خود کچھ کہوں

اس کو سن لیا جائے، اور یہاں کے ارد گرد کام کرنے کے لئے بھی نکلا جائے یعنی روزمرہ کی گشت میں شرکت کی جائے پھر کچھ رنوں کے لئے میوات جا کر کام کی مشق کی جائے اس کے بعد اپنی جگہ پر جا کر کام کیا جائے۔

(۱۰۴) یہ ضرورت یہ ہے کہ تبلیغ سے تعلق رکھنے والوں کا یہاں ایسا مخلوط شعر ہے جس میں ہر طبقہ اور ہر طرح کے لوگ ہوں۔ علماء بھی ہوں اہل الذکر بھی ہوں، انگریزی تعلیم یافتہ بھی ہوں، تاجر بھی ہوں، غریب عوام بھی ہوں۔ اس سے ہمارے طریقہ کار کو سمجھنے اور عمل اس پر قابو پانے میں بڑی مدد ملے گی اور ہم جو مختلف طبقات کا باہم اختلاط اور تعاون چاہتے ہیں، اس کی بنیاد بھی انشا اللہ اس سے پڑ جائے گی۔

(۱۰۵) ہماری اس تحریک میں تصحیح نیت کے استام کی بڑی اہمیت ہے ہمارے کام کرنے والوں کے پیشِ لظہ بس اللہ کے حکم کی اطاعت اور اس کی رضا جوئی ہوئی چاہیئے جس قدر یہ سلوفاصل اور توہی ہو گا اسی قدر اجزی پادہ ملے گا۔ اس لئے یہ عام فاؤن ہے کہ جب دین کے قربانیاں کرنے کے صالح اور منافع کھل رکھنے کے سامنے آ جائیں تو اجر گھٹ جاتا ہے۔ کیونکہ پھر قدرتی طور پر دہ صالح بھی فی الجملہ مقصور ہو جاتے ہیں۔ دیکھو، فتح مکہ سے ہے جانی اور مالی قربانیوں کا جواہر تھا بعد میں وہ نہیں رہا کیونکہ فتح مکہ ہو جانے کے بعد غلبہ اور حکومت کی صورت نظر دل کے سامنے آگئی۔

لَا يُسْتَوْى مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتحِ وَقَاتَلَ
أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَاجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ

ہو گئی ہے کہ مبادی کو غایت کا اور زرائع کو مقاصد کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ غور کرو گے تو معلوم ہو گا کہ دین کے تمام شعبوں میں یغلطی گھن گئی اور ہزاروں خرابیوں کی یہ جڑ ہے۔

(۱۱۰) فرمایا۔ "إِنَّ لِلشَّائِلِ عَلَيْكُ حَقًا وَإِنْ جَاءَ عَلَى فَرَسٍ" کامطلب سمجھنے میں عام طور سے ایک مغالطہ ہوتا ہے۔ بجھا جاتا ہے کہ سائل خواہ کیسا ہی اور کسی حال کا ہو اس کو اس کا مسئول (یعنی جو وہ مانگے دینا ہی چاہیئے) حالانکہ یہ غلط ہے۔ بلکہ حدیث کامفادر صرف یہ ہے کہ اس کا تم پر حق ہے کہ اس کے ساتھ مناسب اور خیر خواہ اند وہ مدردانہ معاملہ کرو تکبیر اور تحریر کے ساتھ پیش نہ ہو (أَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرْ)

اب یہ خیر خواہی کہبی اس طرح ہو گی کہ اس کی مانگ پوری کر دی جائے اور کبھی خیر اندیشی وہ مدردی کا تقاضا یہ ہو گا کہ اس کو سوال کی ذلت سے بچنے کی نیحیت کی جائے اور معیشت کی مناسب تدبیر کی طرف اس کی رہنمائی کی جائے اور اس میں حصہ ہو قع اس کو سہولت پہنچائی جائے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سائلوں کے ساتھ کیا کہ ان کے کھانے کا پیالہ تک نیلام کر کے اس کی قیمت سے کلبہ اڑی خرید وادی اور فرمایا کہ جنگل سے نکلا یا کاٹ کر لاؤ اور یہ چو اور اپنا گزارہ کرو۔"

پس اگر سائل معذور و محبو نہیں ہے بلکہ ایسا ہے کہ اپنے گزارے کے لئے کچھ کر سکتا ہے تو اس کا حق یہی ہے کہ حکمت کے ساتھ اس کو سوال سے بچا یا جائے اور کسی کام سے لگانے کی کوشش کی جائے۔

بَعْدَ وَقَاتِلُوا أَكْلًا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى
دعاوتِ تبلیغ کے سلسلہ میں شروع تحریک سے کام کرنے والے روشنصر میواتیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ایک دن آپ نے فرمایا :

(۱۰۴) اس تبلیغی کام کی نسبت بوجددعاوت میری طرف ہو گئی ہے۔ وزیر در اصل اس کے کرنے والے یہ لوگ ہیں میں جاہتا ہوں کہ جو لوگ اس کام سے کارخ دجھ سے مجھ سے محبت رکھتے ہیں وہ ان لوگوں کی طرف اپنی محبتتوں کا رخ کریں اگرچہ اس کے واسطے انہیں اپنے اوپر جبر کرنا پڑے، ان سے محبت اور ان کی خدمت قبولیت کا ذریعہ ہے۔

(۱۰۷) اسی سلسلے میں فرمایا۔ ان لوگوں کے مجھ پر بڑے حقوق ہیں میں ان کے حقوق ادا نہیں کر سکا ہوں میرے اہل محبت انکے حقوق کو پہچانیں۔

(۱۰۸) فرمایا۔ دین کی جدوجہد میں مخلصین اور صادقین کا حصہ بس اللہ و رسولہ اور ان کی رضا کا حصول ہوتا ہے۔ اور فتوحات اور مال دوست جب ہاتھ آئے ان میں ضعفاء اور مولفۃ القلوب کا پہلے خیال کیا جاتا ہے۔ اسی اصول پر مایں کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے ہمارے کام کی حقیقت کو ابھی نہیں سمجھا ہے اور اس لئے انہیں اس سے لگاؤ پریانہیں ہوا ہے ان کو بلایا جائے تو ان کے کرایہ کی بھی نکھر کی جائے اور ان کی خدمت اور مدارات کا بھی اپنے امکان بھرا ہتمام کیا جائے اور جو مخلصین کام کی حقیقت کو سمجھ کر اس میں لگ گئے ہیں ان کے لئے ان چیزوں کی نکر نہ اٹھایا جائے۔

(۱۰۹) فرمایا۔ آج کل دین کے باب میں یہ غلط فہمی نہایت عام

اسی سلسلہ میں فرمایا۔ نصوص کے معنی اگر حضور صَلَّی اللہ علیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے طریقے عمل کی روشنی میں سمجھئی کو شش کی جائے تو کبھی الشاوا اللہ غلط فہمی نہ ہو۔

قط انحراف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

(۱۱) فرمایا۔— انبیاء علیہم السلام باوجو ریک مخصوص اور محفوظ ہیں اور علوم و مددیات بہرہ راست اللہ تعالیٰ سے حاصل کرتے ہیں، لیکن جب ان تعلیمات و تبلیغ میں ہر طرح کے لوگوں سے ملنا جلت اور ان کے پاس ناجانا ہوتا ہے تو ان کے مبارک اور منور قلوب پر کبھی ان علوم الناس کی کدوڑتوں کا اثر پڑتا ہے۔ پھر تنہائی کے ذکر و عبادت کے ذریعہ وہ اس گرد وغبار کو دھوتے ہیں۔

فرمایا۔— سورہ مزمل میں حضور صَلَّی اللہ علیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کو قیامِ سیل (سُجُود) کا حکم دیتے ہوئے جو فرمایا گیا ہے "إِنَّ لَكُمْ فِي النَّهَارِ سُبُّحًا طَوِيلًا" (ای رسلوں بدن میں تم کو بہت چلنا پھر زار ہتليے) تو اس میں اس طرف کبھی اشارہ ہے کہ سید الانبیاء صَلَّی اللہ علیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کو سبھی دن کی روز دھوپ اور حللت پھرت کی وجہ سے رات کی اندر ہیری اور تنہائی میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کی ضرورت تھی۔ پھر اس آیت سے اگلی آیت میں جو متصل افرمایا گیا۔

"وَأَذْكُرْ أَسْحَدَ رِتْفَ وَتَبَثَّلْ إِلَيْهِ تَبَتِّيلًا" (اور اپنے رب کے نام کی یاد کر اور یکسوئی سے ہمہ تن اس کی طرف متوجہ ہو) تو اس سے کبھی اس مضمن

کی مزید تائید ہوتی ہے کہ تبلیغی دوڑ دھوپ کرنے والوں کو ذکر و فکار کیسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت کی خصوصیت سے ضرورت ہوتی ہے۔ لیں ہم کو بھی اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ بلکہ ہم اس کے بہت زیادہ محتاج ہیں کیونکہ اولاد تو ہم خود کچھ اور ظالمتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ پھر اپنے جن بڑوں سے ہم دینی فیوض اور مددیات حاصل کرتے ہیں وہ بھی ہماری ہی طرح غیر مخصوص ہیں اور جن میں تبلیغ کے لئے جاتے ہیں وہ بھی عام انسان ہی ہیں۔ غرض ہم میں خود بھی کدوڑتیں ہیں اور ہمارے دونوں جانب بشری کدوڑتیں ہیں جن کا ہم پر اثر پڑنا لازمی اور فطری ہے۔ اس لئے ہم اس کے بہت ہی زیادہ محتاج ہیں کہ رات کی اندر ہیریوں اور تنہائیوں میں اللہ کے ذکر و عبارت کا اہتمام والتزام کریں۔ قلب پر پڑتے ہوئے بربے انترات کا یہ خاص ملاج ہے۔

اسی سلسلہ میں فرمایا۔— یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے جن بڑوں سے ہم دینی فیوض اخذ کریں ان سے اپنا تعلق صرف اللہ کی جانب کا رکھیں اور صرف اسی لائے کے ان آقوال و افعال اور احوال سے سروکار رکھیں۔ ہاتھی دوسری لاٹوں کی ان کی ذاتی اور خالگی باتوں سے تعلق بلکہ یہ خبر ہے کی کوشش کریں کیونکہ یہ ان کا اپنا بشری حصہ ہے۔ لامیا (اس میں کچھ کدوڑتیں ہوں گی اور جب آدمی اپنی توجہ ان کی طرف کو چلا جاوے گا۔ تو وہ اس کے اندر بھی آئیں گی۔ نیز بسا اوقات اعتراض پیدا ہوگا جو بعد اور محرومی کا باعث ہو جائیگا اسی لئے مذاخ کی کتابوں میں سالک کو شیع کے خالگی احوال پر نظر نہ کرنے کی تائید کی گئی ہے۔

(۱۱۲) فرمایا۔۔۔ اہل علم اور اہل اثر حضرات ایک سلسلہ یہ شروع کریں کہ ہر جگہ کے نئے پہلے سے سوچ کر طے کر دیا کریں کہ ہم یہ جمعہ فلاں محد کی مسجد میں پڑھیں گے اور اس انتخاب میں غریب پہماندہ اور جمل زدہ آبادیوں کا زیادہ لحاظ رکھیں۔ مثلًا جن حلقوں میں رحموی، سقے، تانجے گارڈی چلانے والے تملی اور سبزی فروش جیسے لوگ بستے ہوں (جن میں دین سے جہالت اور غفلت اگرچہ بہت زیادہ ہے لیکن تمثیل اور انکار کی کیمپین پیدا نہیں ہو رہی ہے) تو ایسے لوگوں کی کسی آبادی کی مسجد پہلے سے تجویز کر دیں اور اپنے اہل تعلق اور ملنے جلنے والے لوگوں کو بھی اس کی اطلاع دی دیں اور ساتھ ملنے کی بھی انہیں ترغیب دیں۔ پھر وہاں پہنچ کر نماز جمعہ سے پہلے محلہ میں تبلیغی گشتوں کے لوگوں کو مسجد میں لا لیں پھر تھوڑی دیر کے لئے انہیں روک کر دین کی اہمیت اور ان کے سیکھنے کی ضرورت ان کو سمجھا کر دین سیکھنے کے واسطے تبلیغی جماعتوں میں نکلنے کی دعوت دیں اور ان کو سمجھائیں کہ اس طریقہ پر وہ چند روز میں دین کا ضروری علم و عمل سیکھ سکتے ہیں۔ پھر اس دعوت پر اگر تھوڑے سے تھوڑے آدمی بھی تیار ہو جائیں تو کسی مناسب جماعت کے ساتھ ان کو سیکھنے کا بندوبست کریں۔

(۱۱۳) اسی سلسلہ میں فرمایا۔۔۔ اگر کسی جگہ کے کچھ غرباً تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنے پر آمادہ ہو جائیں اور خرچ ہے لاجاڑیوں تو پوشش کر کے حتی الواسع انہیں کے ماحول سے کچھ امراء کو بھی ان کے ساتھ کے لئے اٹھایا جائے اور انہیں یہ بھی بتایا جائے کہ اللہ کی راہ میں نکلنے والے غرباً اور ضعفاء کی امداد

کا اللہ کے یہاں کیا درجہ ہے۔ لیکن ساتھ ہی پوری اہمیت سے یہ بات بھی ان کے ذہن نشین کی جائے کہ اگر وہ اپنے کسی غریب ساتھی کی مدد کرنے کا ہی تو اس کے اصول اور اس کا طریقہ اس راہ کے پرانے اور تجریک کا رکائزون سے علوم کریں اور ان کے مشورہ سے ہی کام کریں۔ خلاف اصول اور غلط طریقہ پر کسی کی مدد کرنے سے بسا اوقات بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔

(پھر اس اتفاق یعنی دین کے لئے نکلنے والے غریب اور غیر مستطیع لوگوں پر خرچ کرنے کے مندرجہ ذیل یہ چند اصول حضرت مولانا نے بیان فرمائے اور غالباً اس عاجز سے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کو کہاں لو)

(۱) غیر مستطیعین کو اس طرح حکمت سے ریا جائے کہ وہ اس کوئی مستقل سلسلہ نہ سمجھنے لگیں اور ان میں اشراف پیدا نہ ہونے پائے۔

(ب) دینا "تالیف" کے لئے ہو (یعنی دین سے مناسبت اور انس پیدا کرنے کے واسطے ہو) لہذا اصرف بقدر ضرورت تالیف ہی ہو پھر جیسے جیسے ان میں دین کی قدر و طلب اور اس کام سے انس و مناسبت بڑھتی جائے اسی قدر مالی امداد سے ماتحت کھینپا جائے۔ اور صحبت و گفتگوؤں وغیرہ کے ذریعہ یہ جذبہ پیدا کیا جائے کہ وہ محنت اور مزدوری کر کر کے یہ کام کریں یا جس طرح اپنی اور ضرورتوں کے لئے قرض لیتے ہیں اس کو بھی ایک اہم ضرورت سمجھتے ہوئے حسب موقع اس کے لئے قرض لیں۔ اس راہ میں غیر کامنون نہ ہونا غریبیت ہے۔ تجریت کے وقت صدیق اکبر فراہیسے فدائی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھنی

پیش کی تھی تا حضور مارنے قیمت طے کر کے قرض لی۔

لیکن جب تک رغبت کا یہ درجہ اور یہ جذبہ و ذائقہ پیدا نہ ہو
اس وقت تک بقدر مناسب ان کی مدد کی جاتی رہے۔

(ج) مالی امداد کے آداب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نہایت مخفی طور
پر اور عزت و احترام کے ساتھ دیا جائے اور دینے والے امراء خدمتِ دین
میں مشغول غرباً رکے قبول کرنے کو ان کا احسان سمجھیں اور ان کو اپنے سے
انفل سمجھیں کہ ہاں وجود غربت و عسرت کے وہ دین کے لئے گھر سے نکلے ہیں۔
دین کے لئے گھر سے نکلنے صفتِ ہبہت ہے اور ان کی مدد کرنا صفتِ نصرت
ہے اور "النصار" کبھی "ہبہ جریں" کے برابر نہیں ہو سکتے۔

(د) اس راہ میں کام کرنے والوں کی مدد و کوڑہ و صدقات سے
زیادہ ہدیہ کی صورت میں کی جائے۔ زکوڑہ و صدقات کی مثال ماندُی کے
میں کبھی اور اجزا اور ذیہ کی سی ہے کہ اس کو نکالنا ضروری ہے ورنہ
ساری مہنڈیا خراب رہی گی اور ہدیہ کی مثال ایسا سمجھو کر جیسے تیار کھانے
میں خوبیوں کی جائے اور اس پر چاندی سونے کے ورق لگا دیئے جائیں۔

(۴) دین کے لئے گھر سے نکلنے والوں کی مدد کی ایک اعلیٰ صورت
یہ بھی ہے کہ ان کے گھر والوں کے پاس جا کر ان کے سودا اسلف اور ان کی
ضرورتوں کی فکر کریں، اور ان کو آرام ہنپانے کی کوشش کریں اور انہیں
بتائیں کہ تمہارے گھر کے لوگ کیسے عملیں کام میں نکلے ہوئے ہیں اور کہ کس
قدر خوش نصیب ہیں غرض یہ کہ خدمت اور ترغیب سے ان کو اتنا مطمئن

۸۱

کریں کہ وہ خود اپنے گھر کے نکلے ہوئے لوگوں کو لکھیں کہ "ہم لوگ یہاں ہر
طرح آرام سے ہیں، تم اطمینان کے ساتھ دین کے کام میں لگے رہو۔

(و) مالی مدد کے سلسلے میں تفقیدِ احوال کی بھی ضرورت ہے (یعنی
دین کے کام میں لگے رہنے والوں کے حالات پر غور کرے اور بالا بالا لٹوہ
لگائے کہ ان کی ضروریات کیا ہیں، اور ان کی گز رلبکری سی ہے؟)

(ز) تفقیدِ احوال کی ایک صورت جس کو خاص طور سے رواج دینا چاہیے
یہ ہے کہ بڑے لوگ اپنے مستورات کو دین کے واسطے نکلنے والے غرباء کے
گھروں میں بھیجا کریں۔ اس سے ان غرباء کے اہل خانہ کی دلداری اور حوصلہ
افزاں بھی ہوگی اور ان کے اندر ورنی حالات کا بھی پکھہ علم ہو گا۔

۱۱۲) اس مسئلہ میں فرمایا۔ اتفاق فی سبیل اللہ (راہ خدا میں
خرج رہنے پر) نصوص میں دنیوی برکات کا جو وعدہ کیا گیا ہے وہ اس
کا "اجر" نہیں ہے نیکیوں کے اصل اجر کا تو عالم محمل ہی نہیں کر سکتا۔
وہاں کی خصوصی نعمتوں کی برداشت یہاں کہاں؟ اس دنیا میں تو پھر اس
جیسی سخت مخلوق اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے طبلیل القدر پرغمبہر بھی ایک
تجھی کی تاب نہ لاسکے۔ فَلَمَّا أَتَجْهَى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّةً
وَخَرَّ مُؤْسَيٌ صَبِعًَا۔

فرمایا۔ جنت کی نعمتیں اگر یہاں بھیج دی جائیں تو خوشی
سے موت واقع ہو جائے۔ یہی حال وہاں کے عذاب کا ہے اگر دوزخ کا
ایک بچوں اس دنیا کی طرف رخ کرے تو یہ ساری دنیا اس کے زیر کی تیزی

سے سوخت موجاے۔

(۱۱۵) اس سلسلہ میں فرمایا۔ راہ خدامیں خرچ کرنے والوں کی مثال قرآن پاک میں جو اس شخص سے دسی گئی ہے جس نے ایک دانہ بوریا اور اس سے سات سودا نے پیدا ہوئے مثُلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سُبْلِ اللَّهِ كُمُثِلٌ حَبَّةٌ أَنْبَتُ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبْلَةٍ مَا تَأْتِهُ حَبَّةٌ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ تو یہ تمثیل دنیوی برکات ہی کی ہے۔ آخرت میں اس انفاق کا جواہر میلے گا وہ توبہ ہی وراء الوراء ہو گا اور اس کی طرف اشارہ اس سے اگھی آیت میں ہے۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سُبْلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَبَعُونَ مَا انْفَقُوا أَمْنًا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ مُحْزَنُونَ ۚ اس میں "لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ" کا اشارہ اصلی اجر کی طرف ہے جو موت کے بعد عالم آخرت میں ملے گا۔

(۱۱۶) اسی سلسلہ میں فرمایا۔ اصل تو یہی ہے کہ رضائے الہی اور اجر ازوی ہی کے لئے دینی کام کیا جائے، میکن ترغیب میں حصہ ہو قع دنیوی برکات کا بھی ذکر کرنا چاہیے۔ بعض آرمی ہیسے ہوتے ہیں کہ ابتداءً دنیاوی برکات ہی کی امید پر کام میں لگتے ہیں اور پھر اسی کام کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں حقیقی اخلاص بھی عطا فرمادیتا ہے۔

فرمایا۔ دنیوی برکات ہمارے لئے موعد ہیں ان کو مقصود مطلوب نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن ان کے لئے رعائیں خوب کرنا چاہیں۔ اللہ

کی طرف تے آنے والی پرنعت کا بندہ بہت زیادہ نہ تھا ج ہے۔

رَبِّ إِنِّي لِبَأْسَرْلَتِ إِنِّي مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ

(۱۱۷) فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے جو وعدے فرمائے ہیں با امشبہ وہ بالکل یقینی ہیں اور آرمی اپنی سمجھ بوجھ اور اپنے تحریکات کی روشنی میں جو کچھ سوچتا ہے اور منصوبے قائم کرتا ہے وہ محض ظنی اور وہی باتیں ہیں مدد آج کا یہ م حال یہ ہے کہ اپنے ذہنی منصوبوں اور اپنے تجویز کے ہوئے دسائیں واسباب اور اپنی سوچی ہوئی تباہیر بریقین واعتماد کر کے لوگ ان کے مطابق جتنی ہستیں اور کوششیں کرتے ہیں اللہ کے وعدوں کی غلطی پریکر کر کے ان کا مستحکم بننے کے لئے اتنا نہیں کرتے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے خیالی اسباب پر ان کو جتنا اعتماد ہے اتنا اللہ کے وعدوں پر نہیں ہے اور یہ حال صرف ہمارے عوام کا ہی نہیں ہے بلکہ سب ہی عوام خواص الامان شاء اللہ الہی وعدوں والے یقینی اور روش راستوں کو چھوڑ کر اپنی ظنی اور وہی تدبیروں ہی میں الجھے ہوئے ہیں۔ پس ہماری اس تحریک کا خاص مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کی زندگی سے اس اصولی اور بنیادی خرابی کو نکالنے کی کوشش کی جائے اور ان کی زندگیوں اور سرگرمیوں کو ظلن دادہا م کی لائیں کے بجائے الہی وعدوں کے یقینی راستہ پر ڈالا جائے۔ انبیاء علیہم السلام کا طریقہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنی امتوں کو یہی ڈالتے ہیں کہ وہ اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے اور بھروسہ کر کے ان کی شرطتوں کو پورا کرنے میں اپنی ساری کوششیں صرف کر کے ان کے سبق بنیں۔ اللہ کے وعدوں کے بارے میں جیسا تھا رابیقین ہو گا ویسا ہی تھا راستے ساتھ اللہ کا معاملہ

ہوگا۔ حدیث قدسی یہ ہے

"أَنَا عِنْدَ ظُنُنِ عَبْدِنَجْنِي"

(۱۱۸) فرمایا — اس راہ میں کام کرنے کی صحیح ترتیب یوں ہے کہ جب کوئی قدم انہنانا ہو، مثلاً خود تبلیغ کے لئے جانا ہو یا تبلیغی فاصلہ کہیں بھیجا ہو، پاشکوں و شہپر اور کھنے والے کسی شخص کو مظہن کرنے کیلئے اس سے مخاطب ہونے کا ارادہ ہو تو سب سے پہلے اپنی نااہلیت اور بے لبسی اور وسائل اسپاٹے اپنی تھی دستی کا تصور کر کے اللہ کو حاضر و ناظر اور قادر مطلق یقین کرتے ہوئے پورے الحجاج وزاری کے ساتھ اس سے عرض کریں کہ خداوند اتنے بار ہابغیر اسپاٹ کے بھی محفل اپنی قدرت کا ملہتے بڑے بڑے کام کر دیتے ہیں۔ الہی بھی اسرائیل کے لئے تو نے عرض اپنی قدرت ہی سے سمندر میں خشک راستہ پیدا کر دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے تو نے اپنی رحمت اور قدرت ہائی سے آں کو گلزار بنادیا تھا، اور اے اللہ تو نے اپنی حقیر حقیقی مخلوقات سے بھی بڑے بڑے کام لئے ہیں۔ ابا بیل سے تو نے ابر ہسہ کے باختیوں و اے الشکر کو شکست دلوائی اور اپنے گھر کی حفاظت کرائی۔ عرب کے اونٹ چرائے والے آئیوں سے تو نے دین کو ساری دنیا میں جپکا یا اور قبصہ و کسری کی سلطنتوں کو مکروہ نکر کر دیا۔ پس اے اللہ! اپنی اسمی سنت قدمیہ کے مطابق مجھے نجح ناکارہ اور عاجز دہ بے بھی کام لے اور میں تیرے دین کے جس کام

لے حضرت مولانا کا یہ ملفوظات بہت محض رفاظ میں تھا، اما ناظرین کو اس کا بھت ایک جزو تھا۔ حضرت مولانا کا یہ ملفوظات بہت محض رفاظ میں تھا، اما ناظرین کو اس کا بھت ایک جزو تھا۔

کا ارادہ کر رہا ہوں، اس کے لئے جو طریقہ تیرے نزدیک صحیح ہے مجھے اس کی طرف رہنمائی فرم۔ اور جن اسپاٹ کی ضرورت ہو وہ محض اپنی قدرت سے ہبیا فرمادے۔

(۱۱۹) بس اللہ سے یہ دعا مانگ کر پھر کام میں لگ جائے جو اسپاٹ

اللہ کی طرف سے ملتے رہیں ان سے کام لیتا رہے اور صرف اللہ ہی کی قدرت نصرت پر کامل بھروسہ رکھتے ہوئے اپنی کوشش بھی بھر پور کرتا رہے اور وہ رو کر اس سے نصرت اور "انجاز و وعد" کی الجاییں بھی کرتا رہے۔ بلکہ اللہ کی مدد بھی کو اصل سمجھے اور اپنی کوشش کو اس کے لئے شرط اور پروردہ سمجھے۔

(۱۲۰) فرمایا — خود کام کرنے سے بھی زیادہ توجہ اور محنت دوسروں

کو اس کام میں لگانے اور انہیں کام سکھانے کے لئے کرنی چاہیے۔ شیطان جب کسی کے متعلق یہ سمجھ دیتا ہے کہ یہ تو کام کے لئے کھڑا ہو ہی گیا اور اب میرے بھائے بیٹھنے والا انہیں تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ خود تو نگارہ میں مگر دوسروں کو لگانے کی کوشش نہ کرے اور اس لئے وہ اس پر راضی ہو جاتا ہے کہ یہ شخص اس کا رخیز میں ہمہ تن اس قدر انہاک سے لگ جائے کہ دوسروں کو دعوت دینے اور لگانے کا اس کو ہوش ہی نہ رہے، پس شیطان کو شکست دوں ہی رہی جا سکتی ہے کہ دوسروں کو انہانے اور انہیں کام پر رگانے اور کام سکھانے کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دی جائے اور دعوت الی المخیز اور دلالت علی المخیز

(بقدح ایشی صفحہ گذشتہ) کے الفاظ اذ عبارت کی ذمہ داری خصوصیت سے اس عبارت پر ہے اگرچہ اکثر

دوسرے ملفوظات میں بھی توضیح و تسلیل کیلئے تعبیر در طرز ادا میں پکھ جزوی رد دبدل کیا گیا ہے۔

لئے دعا کا اثر اسی عبارت میں حفظ اعلیٰ نصوٰ الرؤومین، کی طرف اشارہ ہے۔

کے کام پر اجر و ثواب کے جو وعدے قرآن و حدیث میں فرمائے گئے ہیں ان کا تصور اور دھیان کرتے ہوئے اور اسی کو اپنی ترقی اور تقرب کا اعلان ذریعہ سمجھتے ہوئے اس کے لئے کوشش کی جائے۔

۱۲۰ فرمایا — دین میں مظہر اونہیں، یا تو آدمی دین میں ترق کر رہا ہوتا ہے یا اگر نے لگتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو کر باعث کو جب پانی اور ہوا مناسب ہو تو وہ سرسبزی و شادابی میں ترقی ہی کرتا رہتا ہے اور جب موسم ناممطابق ہو یا پانی نہ ملے تو ایسا نہیں کرو وہ سرسبزی و شادابی اپنی جگہ پر کھفری رہے بلکہ اس میں اخطا طالع ہو جاتا ہے کیونکہ یہی حالت آدمی کے دین کی ہوتی ہے۔

۱۲۱ فرمایا — بوجوں کو دین کی طرف لانے اور دین کے کام میں لگانے کی تدبیر سوچا کر دا جیسے دنیا والے اپنے دنیا وی مقاصد کے لئے تدبیر سوچتے رہتے ہیں) اور جس کو جس طرح متوجہ کر سکتے ہو اس کے ساتھ اسی راست سے کوشش کرو۔ وَأَنُوَالْبِيُوتَ مِنْ أَبُوَابِهَا۔

۱۲۲ فرمایا — طبیعت میلوسی کی طرف زیادہ چلتی ہے۔ کیوں کہ ما یوس ہو جانے کے بعد آدمی اپنے کو عمل کا ذمہ دار نہیں سمجھتا اور کھر سے کچھ کرنا نہیں پڑتا خوب سمجھوئے نفس اور شیطان کا بڑا اکیدہ ہے۔

۱۲۳ فرمایا — اسباب کی کمی پر نظر ڈال کر ما یوس ہو جانا اس بات کی نشانی ہے کہ تم اسباب پر مست ہو۔ اور اللہ کے وعدوں اور اس کی غیبی طاقتور پر تقدیم بہت کم ہے اللہ پر اعتماد کر کے اٹھو تو اللہ

ہی اسباب مہیا کر دیتا ہے۔ ورنہ آدمی خود کیا کر سکتا ہے مگر ہمت اور استطاعت بھر جہد شرط ہے۔

قسمت نمبر ۸

۱۲۴ جو لوگ زندگی کے انفرادی معاملات یا اجتماعی امور میں یورپ کی میمی اقوام کے طور طریقوں کی تقلید کر رہے ہیں اور اسی کو اس زمانہ میں صحیح طریقہ کا رسم سمجھتے ہیں اور ان کے رویہ پر رجحان افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایک صحبت میں فرمایا:

ذراسو چو تو جس قوم کے آسمانی علوم (یعنی حضرت یسعی علیہ السلام کے لائے ہوئے علوم) کا جراغ علومِ محمدیٰ (قرآن و سنت) کے سامنے گل ہو گیا بلکہ من جانب اللہ مشو خ قرار دیدیا گیا اور برا ہ راست اس سے روشنی حاصل کرنے کی صاف ممانعت کر دی گئی۔ اسی قوم کی احوال و امانتی (یعنی ان یورپیں میمی اقوام کے اپنے خود ساختہ نظروں) کو اس حاملِ قرآن و سنت امتِ محمدیٰ کا اختیار کر لینا اور اس کو صحیح طریقہ کا رسم سمجھنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا قبیح اور کس قدر موجب غضب ہو گا، اور عقلًا بھی یہ بات کتنی غلط ہے کہ محمدیٰ وحی کے محفوظ ہوتے ہوئے (جس میں زندگی کے تمام انفرادی اور اجتماعی شعبوں کے متعلق کامل بہایات موجود ہیں۔) عیماً قوموں کے طور طریقوں کی پروردی کی جائے۔ کیا یہ علومِ محمدیٰ کی سخت ناقدری نہیں ہے۔

(۱۲۵) فرمایا۔— ہم جس دین کام کی دعوت دیتے ہیں بنظاہر تو یہ بڑا سادہ سا کام ہے۔ لیکن فی الحقيقةت بڑا نازک ہے کیونکہ یہاں مقصود صرف کرننا کرنا ہی نہیں ہے بلکہ اپنی سعی کر کے اپنی عاجزی کا تلقین اور اللہ تعالیٰ کی قدرت و نصرت پر اعتماد پیدا کرنا ہے۔ سُفْلَتُ اللَّهُ بِحِيَّ ہے کہ اگر اللہ کی مدد کے بھروسہ پر اپنی سی کوشش ہم کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری کوشش اور حرکت ہی میں اپنی مدد کو شامل کر دیتے ہیں قرآن مجید کی آیت **وَيَرَدُ حُكْمُ قُوَّةٍ إِلَيْ قُوَّتِكُمْ** میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اپنے کو بالکل بے کار سمجھ کر بیٹھے رہنا تو "جبریت" ہے اور اپنی ہی قوت پر اعتماد کرنا "قدرت" ہے (اور یہ دونوں مگر میاں ہیں) اور صحیح اسلام ان دونوں کے درمیان ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جدوجہد اور کوشش کی جو حقیر سی قوت اور صلاحیت ہم کو بخش رکھی ہے، اللہ کے حکم کی تعییں میں اس کو تو پورا پورا لگائیں۔ اور اس میں کوئی کسر اٹھانے کے لئے لیکن نتائج کے پیدا کرنے میں اپنے کو بالکل عاجزاً اور بے بس یقین کریں اور صرف اللہ تعالیٰ کی امداد ہی پر اعتماد کریں اور صرف اسی کو کار فرماسمجھیں۔

فرمایا۔— اسوہ نبی ﷺ سے اس کی پوری تفصیل معلوم کی جا سکتی ہے۔ مسلمانوں کو ہماری دعوت نہیں ہی ہے۔

(۱۲۶) میں چاہتا ہوں کہ اب میوات میں فرائض (یعنی تقيیم میراث کے شرعاً طریقہ کو زندہ کرنے اور روح دینے کی طرف خاص توجہ کی جائے اور اب جو تبلیغی و فور وہاں چائیں وہ فرائض کے باب کے وعدوں اور وعدوں

خوب یاد کر کے جائیں۔

(۱۲۷) اسی سلسلہ کلام میں فرمایا : " عمل کی کوتاہی پر ہی خلود فی النّار نہیں ہے۔ بلکہ خلود ہے عدم یقین اور تکذیب پر ۔

(۱۲۸) فرمایا۔— ہر عمل کا جزو اخیر اعتراف، تقصیر اور خشیہ رہ ہونا چاہیے (یعنی ہر ہنیک عمل کو اپنی نظرت سے تو بہتر سے بہتر ادا کرنے کی کوشش کرے لیکن پھر اس کے خاتمہ پر یہ احساس ہونا چاہیے کہ جیسا اللہ تعالیٰ کا حق تھا۔ اور جیسا کرنا چاہیے تھا دیسا نہیں ہو سکا اور اس کی دل میں یہ خوف اور خطر ہونا چاہیے کہ کہیں ہمارا یہ عمل ناقص اور خراب ہونے کی وجہ سے مردود قرار دے کر قیامت میں ہمارے منہ پر نہ مار دیا جائے اور پھر اسی احساس اور اسی خوف و خطر کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے سامنے رو یا جائے اور بار بار استغفار کیا جائے۔

(۱۲۹) فرمایا۔— اعتقادات کے بارے میں اصول یہ ہے کہ اپنی طرف سے تو اعتقاد کو واثق اور مضبوط رکھنے کی پوری کوشش کرے اور اس کے خلاف وساوس کو جھیٹ آنے دے لیکن پھر بھی ڈر تار ہے کہ کماحتہ یقین مجھے حاصل ہے یا نہیں۔

فرمایا۔— صحیح بخاری شریف میں ابن ابی مُلیک کا جو یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ **لِقِيْثُ ثَلَثِيْنَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ** یعنی عمل کے قبل نہ ہونے کا خطرہ ۱۲

۹۱

کافیصلہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والوں سے اور شریعت کے مطابق کراین اور ان کا جذبہ یہ ہو کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والوں کے فیصلے سے اگر آدھا بھی ملتے تو وہ سراسر حمدت اور برکت ہے اور خلافِ شریعت فیصلے کرنے والے سارا بھی دلوائیں تو وہ سراسر بمال اور بے برکت ہے۔"

فرمایا قرآن مجید کی آیت فَلَا وَرَبَّكَ لَآيُونْمُنُونَ
 حَتَّىٰ يُحَكِّمُوا لَفَ فِيمَا شَجَرَ بِيْنَهُمْ شَمَاءٌ لَا يَخْدُقُ فِي الْفُسُنْهُمْ
 حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَلِيُسْلِمُوا تَسْلِيْمًا۔ کامدعا ہی ہے لیکن یہ بات لیکر دم پیدا نہیں ہو سکتی، بلکہ اس کی صورت یہ ہے کہ بھلے ان میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور احکام شریعت کی پیروی کا شوق پیدا کیا جائے۔ اور اس چیز کو ان کی طبیعتوں پر غالب کیا جائے اور پھر حکمت و تدریج کے ساتھ یہ بات ان میں پیدا کیا جائے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی عملی صورت ہی ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح تعلق رکھنے والے دین کی جو باتیں بتائیں ان کو عظیت و توقیر سے مانا جائے، اور ذوق شوق سے ان پر عمل کیا جائے۔ یہی طریقہ زندگیوں کے رخ کو پلتئے کا ہے۔

۱۳۱

فرمایا میرے نزدیک حقيقة دین یہ ہے کہ اس عالم کے اس باب کو اللہ تعالیٰ کے امر تکوینی کا پردہ سمجھنے اور یہ یقین کرنے لگے کہ اس پردہ میں کرنے والا کوئی اور ہے اور اس کا فعل اور حکم حقيقة سبب ہے۔ گویا بجاۓ ظاہری اس باب کے اللہ تعالیٰ کے غلبی حکم ہی حقيقة سمجھنے لگے (اور ظاہری

۹۰

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَّهُمْ يَخْشَى عَلَى نَفْسِهِ التِّقَاقُ لَهُ أَكْمَالٌ
 تو اس کی حقیقت یہ ہے۔

فرمایا۔۔۔ اعتماد اور یقین کی ضرورت اس لئے بھی ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے دل کی طرف سے ہمیت اور توقیر اور اعزاز کے ساتھ اس کا استقبال ہو، اس صورت میں عمل بھی ہو اور عمل میں جان بھی ہوگی۔

(۱۳۰) ایک دینی مدرسہ کے ایک مشہور استاذ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

"میں نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں کے اللہ کی نظر سے گرنے اور پھر اسی کے نتیجے میں بنیا کی نظر وہ سے کبھی گرجانے کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ سے جو تعلقات ہیں ان کی توقیر آپ لوگوں میں نہیں رہی اور دنیوی اور دنیاری تعلقات کے در باڑ کو آپ زیادہ قبول کرنے لئے۔ دیکھو میرا اور تمہارا تعلق صرف اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہے۔ میں نے تمہیں بلا یا، تم نہیں آئے لیکن کے ایک خط نے تمہیں بلا لیا (الانک ان میں یہی بات توزیع میں ہے کہ وہ دولتمند ہیں اور ان سے اور ان کا اثر سے چندہ ملتا ہے) تو ہماری بنیادی بیماری ہے۔ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اور ان کی طرف سے کہنے والوں کی نہ سُننا اور نہ مانا۔"

اسی سلسلہ میں فرمایا:

میں اب بیوات میں یہ بات پیدا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ لئے نزاعات نہ ترجمہ: ابن ابی ملیکؓ نابعی فرماتے ہیں کہ میں ۳۰ صحابیوں سے ملاقات کی میں نے ان میں سے ہر ایک کو پے نفس کے بارے میں نفاق سے ڈرتا ہوا پایا۔

اساں میں کوشش کرنے سے بھی زیادہ کوشش اس کی کرے کر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو کر میرا کام پورا کر دے۔

فرمایا — قرآن مجید کی آیت "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ" میں غور کرو۔
۱۳۲ بخاری کے ایک دیندار مسلمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

"وَهُجَبَ أَبْلَى رَفِعَرِهَا نَأَى تَوَالِفَاقَ سَمِّيَ سوقت ابن ماجہ شریف کا سابق پڑھارہاتھا۔ انہوں نے سلام کیا۔ میں نے حدیث کے درس میں مشغولیت کی وجہ سے جواب نہیں دیا، پھر وہ وہی بلیٹھ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد (سابق ہی کے دران میں) انہوں نے کہا کہ میں فلاں جگہ سے آیا ہوں۔

میں نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر چلنے لگے، اب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے تھے؟ انہوں نے کہا کہ زیارت کے لئے۔ میں نے کہا جس زیارت کی حدیث میں ترغیب اور فضیلت آئی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی کی صرف صورت دیکھ لی جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کسی کی تصویر دیکھ لی۔ شرعی زیارت یہ ہے کہ اس کی بات پوچھی جائے، اس کی سُنی جائے، اور آپ نے تو نہ اپنی کچھ کہی اور نہ میری کچھ سُنی۔ انہوں نے کہا کیا میں پھر ہوں؟ — میں نے کہا کہ ضرور — چنانچہ وہ پھر گئے اور پھر جب انہوں نے میری بات کو سُننا اور سمجھا اور یہاں کے کام کو دیکھا تو اپنے بڑے بھائی ... کو بلایا۔ ... اگر میں اسی وقت اسی طور پر مختصر بات اس سے کر لیتا تو جو کچھ بعد میں ہوا کچھ بھی نہ ہوتا۔ اور وہ بس "زیارت" ہی کر کے چلے جلتے۔

فرمایا — زمانہ کے بد لئے سے دینی اصطلاحات کے معنی بھی بدل گئے اور ان کی روح نکل گئی۔ دین میں "مسلم سے مسلم کی ملاقات" کی فضیلت اس لئے ہے کہ اس میں دین کی باتیں ہوں جس ملاقاتیں میں دین کا کوئی ذکر نہ کرنے ہو وہ بے روح ہے۔

۱۳۳ فرمایا — ہمارے نزدیک اصلاح کی ترتیب یوں ہے کہ (کلمہ طیبہ کے ذریعاً کافی معاہدہ کی تجدید کے بعد) سب سے پہلے نمازوں کی درستگی اور تکمیل کی نکر کی جائے۔ نماز کی بہ کات باقی پوری زندگی کو سُدھاریں گی۔ نماز کی درستگی ساری زندگی کے سدھار کا سرچشمہ ہے اور نماز ہر یوں کے صلاح و کمال سے باقی زندگی پر صلاحیت اور کمال کا فیضان ہوتا ہے۔

۱۳۴ فرمایا — ہماری اس دینی دعوت میں کام کرنے والے سب ہی لوگوں کو یہ بات ابھی طرح سمجھا دینی چاہیے کہ تبلیغی جماعتوں کے نکلنے کا مقصد صرف رسولوں کو پہنچانا اور بتانا ہی نہیں ہے بلکہ اس ذریعے سے اپنی لصلاح اپنی تعلیم و تربیت کبھی مقصود ہے اچنپخہ نکلنے کے زمانے میں علم اور ذکر میں مشغولیت کا بہت زیادہ اہتمام کیا جائے۔ علم دین اور ذکر اللہ کے اہتمام کے بغیر نکلنے کا کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ علم و ذکر میں یہ مشغولیت اس راہ کے اپنے بڑوں سے والستگی رکھتے ہوئے اور ان کے زیر ہدایت دنگرانی ہوا انبیاء علیہم السلام کا علم ذکر اللہ تعالیٰ کے زیر ہدایت تھا اور صاحبہ کرام

اس احوال کی کچھ تفصیل خاکار مرتب ملفوظات کے رسالہ نماز کی فضیلت سے معلوم ہو سکتی ہے جو کچھ کر شائع ہو چکا ہے۔

حضرور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم و ذکر لیتے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پوری پوری نگرانی فرماتے تھے۔ اسی طرح ہر زمانے کے لوگوں نے اپنے بڑوں سے علم و ذکر لیا اور ان کی نگرانی و رسماں میں تکمیل کی۔ ایسے ہی آج بھی ہم اپنے بڑوں کی نگرانی کے محتاج ہیں ورنہ شیطان کے جال میں پھنس جانے کا بڑا اندیشہ ہے۔

قسط نمبر ۹

۱۳۵ فرمایا — ہماری یہ تبلیغی تحریک، دینی تعلیم و تربیت پھیلانے اور دینی زندگی کو عام کرنے کی تحریک ہے اور اس کے جو اصول ہیں بس ان ہی کی رعایت اور نگہداشت میں اس کی کامیابی کا راز مضمون ہے۔ ان اصولوں میں ایک اہم اصول یہ ہے کہ مسلمانوں کے جس طبقے کا جو حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کو ادا کرتے ہوئے اس دعوت کو اس کے سامنے پیش کیا جائے۔

مسلمانوں کے تین طبقے ہیں:

۱۔ پسمندہ (غرباء) ۲۔ وقار ۳۔ علماء دین
ان سب کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیئے اس کو یہ حدیث جامع ہے۔

مَنْ لَهُ يُرِحْمُ صَغِيرُهَا وَلَمْ يُؤْقِرْ كِبِيرُهَا
وَلَمْ يُبَحِّلْ عُلَمَائَنَافَلَيْسَ مِنَّا۔

پس قوم میں جو چبوٹے ہوں ان کا حق (رحم و خدمت) اور جو

اصحاب و قاراؤ را بہت ہوں ان کا حق (تو قیر) اور علماء دین کا حق (تعظیم) ادا کر کے ان کو یہ دعوت دی جائے۔ "وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا"۔

(۱۳۴) دلی کے ایک تاجر ایک تبلیغی جماعت کے ساتھ کام کر کے منڈھ سے واپس آئے تھے۔ وہاں کے کام کی روپورٹ ان سے سن کر حضرت نے فرمایا:

"دوستو! ہمارا یہ کام (اصلاحی و تبلیغی جدوجہد) ایک طرح کا عمل تحریر ہے (یعنی جو کوئی اس کام میں لگے گا اور اس کو اپنی دھن بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے کام بناتا رہے گا)" مَنْ كَانَ بِلِهِ كَانَ اللَّهُ هُوَ أَكْبَرُ۔
اگر تم اللہ کے کام میں لگو گے تو زمین و آسمان اور فضا کی ہواؤں تمہارے کام انجام دین گی۔ تم اللہ کے کام میں گھر اور کار و بار چھپوڑ کے نکلے تھے، اب آنکھوں سے دیکھ لینا تمہارے کار و بار میں کتنی برکت ہوتی ہے۔
اللہ کی نصرت کر کے جو اس کی نصرت رحمت کی امید نہ رکھے وہ فاسق اور بے نصیب ہے"
مرتب عرض کرتا ہے کہ آخری فقرہ آپ نے اسے انداز اور

(۱۳۷) اتنے جوش سے کہا کہ حاضرین مجلس کے دل ہل گئے۔

فرمایا — ہمارے اس کام کی صحیح ترتیب تو یہی ہے کہ پہلے قریب قریب جایا جائے اور اپنے ماحول میں کام کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے مثلًا یہاں سے جماعتیں پہلے کرناں پانی پت وغیرہ جائیں، پھر وہاں سے پنجاب اور پیاسٹ بہاولپور کے علاقوں میں کام کر قی ہوئی سندھ جائیں۔ لیکن کبھی کبھی کارکنوں میں عزم اور رخچتگی کا رہا پیدا

کرنے کے لئے ابتداءً درجی جید یا جاتا ہے۔ اس وقت سندھ، بمبئی وغیرہ جماعتیں بھی یعنی سے یہی مقصد ہے۔ ان طویل سفروں سے عزم اور کام کا عشق پیدا ہو گا۔

۱۳۸ فرمایا۔ ہمارے اس کام میں پھیلاو سے زیارت رسول خدا ہم سے۔ لیکن اس کام کا طریقہ ایسا ہے کہ رسول کے ساتھ ہی پھیلاو بھی ہوتا جائیں گا۔ کیونکہ رسول خدا اس کے بغیر پیدا ہی نہیں ہو گا کہ اس دعوت کو لے کر شہروں شہروں اور ملکوں ملکوں پھرا جائے۔

۱۳۹ ایک نیازمند سے (جس کو مولانا کے تبلیغی کام سے بھی تعلق تھا اور اس کے علاوہ تحریر و تصنیف ان کا خاص مشتمل تھا) ایک دن فرمایا:

"میں اب تک اس کو پندرہ ہیں کرتا تھا کہ اس تبلیغی کام کے سلسلے میں پھر زیادہ سڑھا کیا جائے اور تحریر کے ذریعہ اس کی دعوت دی جائے۔ بلکہ میں اس کو منبع کرتا رہا۔ لیکن اب میں کہتا ہوں کہ کھا جائے اور تم بھی خوب لکھو، مگر یہاں کے فلاں فلاں کام کرنے والوں کو میری یہ بات پہنچا کر ان کی رائے بھی لے لو (چنانچہ ان نامزد حضرات کو حضرت مولانا کی یہ بات پہنچا کر مشورہ طلب کیا گیا ان صاحبان نے اپنی یہ رائے ظاہر کی کہ اس باعث میں اب تک جو طرز عمل رہا ہے وہی اب بھی رہے ہمارے نزدیک ہی بہتر ہے)

حضرت مولانا کو جب ان حضرات کی رائے پہنچائی گئی تو فرمایا:

پھر ہم بالکل کسپری کی حالت میں تھے، کوئی ہماری بات مبتدا نہیں تھا اور کسی کی سمجھ میں ہماری بات آتی نہیں تھی۔ اس وقت یہی

ضروری تھا کہ ہم خود ہی چل پھر کر لوگوں میں طلب پیدا کریں اور عمل سے اپنی بات تحسینیں اس وقت اگر تحریر کے ذریعہ عام دعوت ری جاتی تو لوگ پھر کا کچھ سمجھتے اور اپنے سمجھنے کے مطابق ہی رائے قائم کرتے اور اگر بات کچھ دل کو لگتی تو اپنی سمجھ کے مطابق پھر سیدھی پچھہ الٹی اس کی عملی تشكیل کرتے اور پھر جب نتاں غلط نسلتے تو ہماری اسکیم کو ناقص کہتے۔ اس لئے ہم یہ بہتر نہیں سمجھتے تھے کہ لوگوں کے پاس تحریر کے ذریعہ ہماری دعوت پہنچے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مدد سے اب حالات بدل چکے ہیں ہماری بہت ہی جماعتیں ملک کے اطراف میں نکل کر کام کا طریقہ دھلا جکی ہیں، اور اب لوگ ہمارے کام کے طالب بن کر ہم کے پاس آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو اتنے آدمی دیتے ہیں کہ اگر مختلف اطراف میں طلب پیدا ہو اور کام سکھانے کے لئے جماعتوں کی ضرورت ہو تو جماعتیں بھی جا سکتی ہیں۔ تو اب ان حالات میں بھی کسپری والے ابتدائی زمانہ کے طریقہ کار کے ہر ہر جز بزر پر جے رہنا شیک ہیں ہے۔ اس لئے میں کہتا ہوں کہ تحریر کے ذریعہ بھی دعوت دینی چاہیئے۔

۱۴۰ فرمایا۔ اب یہ کہنا چھوڑ دو کہ تین رن دو یا پانچ رن دو یا سات رن دو۔ بس یہ کہو کہ راستہ یہ ہے، جو جتنا کرے گا اتنا پائے گا۔ اس کی کوئی سر انہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام سب نبیوں سے آگئے۔ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک رات ایک رن کے کام کو حضرت عمر بن حنفیہ پاس کے۔ پھر اس کی غایت ہی کیا ہے۔ یہ تو سونے چاندی کی کان ہے، جتنا

کھو دو گے اتنا کالو گے۔"

مادی منافع کے لئے دشمنانِ اسلام کا آله کار بننے والے مسلمانوں

کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا:

(۱۴۱) "اگر تم ان میں شکم پرستی اور غرض پرستی کے بجائے خدا پرستی کا جذبہ پیدا کر سکو گے تو پھر وہ پیٹ اور روسی اغراض کی فاطر دشمنوں کے آله کار کیوں بنیں گے جذبات اور دل کا رخ بدلتے بغیر زندگی کے اشغال بدلوانے کی کوشش غلط ہے صحیح طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کے روں کو اللہ کی طرف پھر دو پھر ان کی پوری زندگی اللہ کے حکموں کے ماتحت ہو جائے گی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَأَكْبَرْ مقصد ہے اور ہماری تحریک کی یہی بتیا رہے۔"

(۱۴۲) ایک دن حضرت نے غالباً یہ بیان فرماتے ہوئے کہ ہمارے اس کام کا بنیاری اصول یہ ہے کہ لوگوں میں یہی ایمان، یعنی اللہ و رسولُہ کی باتوں پر حقيقی یقین اور دین کی قدر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے بغیر دین کے تفصیلی احکام پیش کرنا صحیح نہیں ہے۔ بلکہ اس سے لوگوں کے اندر اور دُھشانی پیدا ہو گدہ ایک طالب کا تصلہ اس طرح بیان فرمایا:

"کسی طالب کو ان کے بزرگ استاد نے یہ یقین دلا رکھا تھا کہ رہنمی میں سب سے زیادہ بیش قیمت چیز علم دین ہے اور اس کا ایک ایک مسئلہ ہزاروں لاکھوں روپیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک دن اس طالب کو اپنا ٹوٹا ہوا جوتا گئھوا لئے کی ضرورت پڑی۔ وہ چمار کے پاس گیا جب مزدوری کی بات ہوئی تو اس طالب نے کہا میں تجھے کو دین کا ایک مسئلہ بتلاروں کا اس نے

پہلے تو اس نے مذاق سمجھا لیکن جب اس سے اندازہ ہوا کہ یہ مذاق نہیں کہہ رہا ہے۔ تو اس نے اپنی دکان سے اٹھا ریا۔ وہ اپنے استاد کے پاس آیا اور کہا کہ آپ تو کہا کرتے تھے کہ دین کا ایک مسئلہ ہزاروں لاکھوں سے زیادہ قیمت کا ہوتا ہے اور چھار تو اس کے بدلتے جوتا گا نہیں پر بھی تیار نہ ہوا۔ ان بزرگ نے (جو اس شہر کے مشہور شیع اور مرجع خدائی تھے) طالب علم کو ایک ہیرادیا اور اس سے کہا کہ ترکاری بازار میں جا کر اس کی قیمت جھواؤ وہ پہلے ہیر والی کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ یہ پتھر تو کتنے میں لے گی؟ اس نے کہا کہ یہ میرے کسی کام کا ہے چھٹا نک نبھر کا بھی تو نہیں کہ جھپٹن کی بنالوں۔ خیز اگر تو دیوے ہی ہے تو پانچ ہیراں کے بدلتے میں تجھے دیدنگی میرا۔ پوچھا کرے گا اس کے بعد ایک دوسرا ہیر والی سے انہوں نے بات کی۔ اس نے بھی بھی کہا، یہ میرے کسی کام کا نہیں ہے۔

یہ اپنے استاد کے پاس واپس آئے اور بتلایا کہ وہاں تو اس کو پیدا کر بتلایا گیا اور ایک ہیر والی مشکل سے پانچ ہیروں کے بدلتے لینے پر تیار ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ اب اس کو لے کر جوہری بازار جاؤ اور وہاں جوہریوں سے قیمت جھواؤ، مگر دینا کسی کو نہیں۔

یہ گئے اور ایک جوہری کی دکان پر جا کر انہوں نے وہ ہمرا رکھا یا دکاندار نے اس طالب علم کی درت دیکھ کر پہلے تو اس کو چور سمجھا لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ یہ فلاں بزرگ کا بھی ہوا ہے تو کہا کہ یہ ہیراں نہیں خرید سکتے اس کو تو کوئی بادشاہ ہی خرید سکتا ہے انہوں نے اکراپنے استاد کا اس کی خبر دی۔

انہوں نے کہا کہ جس طرح بیری والی اس سیرے کی قیمت کو نہیں جانتی تھی اور اس لئے وہ ایک پسیہ میں بھی اس کو لینے کے لئے تیار نہیں ہوتی اس طرح وہ چکار بھی نہیں جانتا تھا کہ دین کے مسئلہ کی کیا قیمت ہوتی ہے۔ غلطی تمہاری ہے کہ تم نے ناقدر ران کو قدر ران سمجھ لیا۔"

اس کے بعد اسی سلسلہ میں دین کی قدر جانے والے ایک بادشاہ کا واقعہ اس طرح بیان فرمایا۔

ایک دیندار اور دین کے قدر شناس بادشاہ نے اپنا لڑکا ایک مولوی صاحب کے حوالے کیا کہ اس کو علم دین پڑھا اور تفاق سے وہ لڑکا بڑا ہی کو دن اور بے سمجھہ تھا۔ مولوی صاحب نے بار بار بادشاہ کو اطلاع دی کہ یہ پڑھنے کے قابل نہیں ہے لیکن بادشاہ کا حکم بار بار یہی آتا رہا کہ اس کی بالکل پرواہ نہ کرو، اگر وہ اپنی کشمکشی کی وجہ سے اخذ نہیں کر سکتا تو تم عبور ہی کراؤ، چنانچہ بس عبور ہی ہوتا رہا۔ جب یہ عبور پورا ہو گیا تو بادشاہ نے بڑی خوش منانی اور لڑکے سے فرمائش کی کہ دین کی کوئی بات بیان کرو۔ اس نے کہا مجھے تو کچھ یاد نہیں بادشاہ نے کہا کہ جو بھی مسئلہ تھیں یاد ہو دیں بیان کر دیں کے نے اس لذت حیض کے متعلق ایک مسئلہ بیان کیا۔ بادشاہ نے بزرگ مجلس کیا کہ اگر میری ساری سلطنت خرچ ہو کر بھی تمہیں صرف یہی ایک مسئلہ آجاتا تو بھی نفع ہی نفع تھا۔

بعایہ لوگوں سے دین پر عمل کرنے کے لئے بھلے ان میں حقیقی ایمان آخرت کی فکر اور دین کی قدر پیدا کرو۔ اللہ کی دہش یہ ہے مگر

اس کے یہاں غیرت بھی ہے۔ وہ ناقدروں کو نہیں دیتا، تم بھی اپنے بڑوں سے دین کو قدر کے ساتھ لو۔ اور اس قدر کا مستحق یہ بھی ہے کہ ان کو اپنا بہت بڑا محس سمجھو اور پوری طرح ان کی تعظیم و تکریم کرو۔ یہی منشاء ہے اس حدیث کا جس میں فرمایا گیا ہے۔

مَنْ لَهُ يُشَكُّرُ النَّاسُ لَمْ يُشَكُّرُ اللَّهُ جس نے اپنے محسن ادمیوں کا شکارا رکھا کیا، اس نے اللہ کا بھی شکارا نہیں کیا۔

(۱۲۳) **اسی سلسلہ میں فرمایا۔** اس سلسلہ کا ایک اصول یہ ہے کہ آزار روی اور خود رائی نہ ہو بلکہ اپنے کو ان بڑوں کے مشوروں کا پا بندر کھو جن پر دین کے بارے میں ان اکابر مر جو میں نے اعتماد ظاہر کیا۔ جن کا اللہ کے ساتھ خاص تعلق معلوم و مسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام رضا کا عام معیار یہی تھا کہ وہ انہی اکابر پر زیادہ بھروسہ کرتے تھے۔ جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص اعتماد فرماتے تھے اور پھر بعد میں وہ حضرات زیادہ قابل اعتماد سمجھے گئے، جن پر حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے اعتماد فرمایا تھا، اُن میں اعتماد کے لئے بہت تیقظ کے ساتھ انتخاب ضروری ہے ورنہ بڑی گمراہیوں کا بھی خطرہ ہے۔

(۱۲۴) **فرمایا۔** اکابر کی گمراہی کا خاص سبب یہی تھا کہ ابتداء میں اس نے علماء پر بہت بھروسہ کیا اور یہاں تک کیا کہ اپنی باغ ہی مجلس علماء کے ہاتھ میں میں دیدیں اور علماء کے انتخاب کی صلاحیت و قابلیت کھی نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ طالبین دنیا و متنہ فسید کا جگہا ہو گیا۔ جب اکبر کو ان کی بدلتی اور غرض پرستی اور دنیا طلبی کا تجربہ ہوا تو وہ علماء سے سخت متنفر ہو گیا اور پھر تو بات یہاں تک پہنچے

کی قدر اپنی کمائی سے زیادہ ہونی چاہیے۔ یہ شکستہ حال میواتی جو بہاں پرے ہے
بین ان کی قدر کرو۔ زراسوچو تو رسول اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی۔

اللَّهُمَّ أَحْبِبْنِي إِسْكِينًا فَأُمْتَنِي مِسْكِينًا
رَاخِشْرُونِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاكِينِ لِإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
مِسْكِينًا كَمَا يُحِبُّ رَبِّنِي كَمَا يُحِبُّ رَبِّي
وَإِنَّ رَبَّيْنِي كَمَا يُحِبُّ رَبِّي كَمَا يُحِبُّ رَبِّي
(اور رب زیامت مسکینوں کی جماعت میں مجھے اٹھا)

۱۲۷ فرمایا — حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ اس رور کے نطب ارشاد
اور بجد دتھے ایک مجدد کے لئے ضروری نہیں ہے کہ سارا تجدیدی کام اسی
کے ہاتھ پر ظاہر ہو، بلکہ اس کے آدمیوں کے ذریعہ جو کام ہو وہ سب بھی بالواسطہ
اسی کا ہے جس طرح خلفاء راشدین ہا الخصوص حضرت شیخین کا کام فی الحقیقت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا کام ہے۔

۱۲۸ فرمایا — دین کا کام ہجۃ و سائط سے ہم تکہ ہنپھی ان کا شکر د
اعتراف اور ان کی محبت نہ کرنا محروم ہے

”مَنْ كَمْ يُشْكُرُ النَّاسُ لَمْ يُشْكُرِ اللَّهَ“

اور اسی طرح ان ہی کو اصل کی جگہ سمجھ لینا بھی شرک اور مردود ریت
کا سبب ہے وہ تفریط اور یہ افراط ہے اور صراطِ مستقیم ان دونوں کے رمیان ہے

۱۲۹ فرمایا — اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات و عادات جو قرآن پاک میں
بیان کی ہیں ان پر اسی طرح ایمان رکھنا چاہیے کسی کا بیان بھی اللہ کے اپنے
بیان کو نہیں پہنچ سکتا۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

گئی کر علماء سے اس نے کتفی احتساب کر لیا اور دوسرا مذاہب کے پیشواؤں پر
قابل بریافت ہو گئے پھر اسلام کی جگہ ”دینِ الہی“ بننے لگا۔
۱۳۵ فرمایا — میری اس بیماری اور کمزوری کی وجہ علماء اور اطباء کا
ستقل نیصلہ ہے کہ میں بات چیت بالکل نہ کروں، حتیٰ کہ سلام و مصافحہ
بھی نہ کروں، میں اس متفقہ فیصلے کی خلاف ورزی صرف اس دینی فریضہ
(اصلاح و تبلیغ) کے احیا کے لئے کرتا ہوں، جس کے لئے مجھے معلوم ہے کہ اگر میں
اس کو نہ کروں تو پھر یہ فریضہ اس وقت زندہ نہ ہو سکے گا۔ سورہ توبہ کی اس
آیت سے میں نے یہ سمجھا ہے:-

مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمُدِينَةِ وَمَنْ حَوْلُهُمْ مِنْ
الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَحَلَّفُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَلَا
يَرْغِبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ ذَفْنِهِ ط

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی وقت دین کا کام کچھ لوگوں پر
موتوف ہو تو پھر ان کو اپنی جان کی پرداہ کرنا جائز نہیں۔

۱۳۴ فرمایا — عام طور سے کام کرنے والے لوگ بڑے آدمیوں اور
نمايانہیں کے ہمچھے لگتے ہیں اور اللہ کے غریب اور خستہ حال بندے اگر خود بھی
آجائیں تو ان کی طرف زیادہ متوجہ نہیں ہوتے۔ یہ ماذہت ہے، خوب سمجھو لو، جو
خود بخود تمہارے پاس آگیا، وہ اللہ کا عظیم اور اس کا بھیجا ہوا ہے اور جس کے
یہمچھے لوگ کے تھم اسے لائے وہ تمہاری کمائی ہے۔ جو اللہ کی فالص عطا ہوا
سے امام ربانی حضرت محمد الف ثانیؑ نے بھی اپنے بعض مکاتیب میں بالکل بھی چیزیاں فرمائی ہے
اور علماء دنیا ہی کو اس صلالت کا سبب بتایا ہے۔ ۱۲۶

اللَّهُمَّ لَا تُحِبِّنِي شَاءَ عَدَيْكَ أَنْتَ
كَمَا أَشَيْتَ عَلَيْهِ نَفْسِكَ ॥

(۱۵۰) حضرت گنگوہی فوراً اللہ مرقدہ کے نواسے حضرت حافظ محمد
یعقوب صاحب گنگوہی زیارت و عیادت کے لئے تشریف
لائے ان کے ساتھ انہی کے گھر آنے کی کوئی خاتون بھی تھیں
(غالباً ان کی صاحبزادی ہی تھیں) جبکہ حضرت مولانا کی عیادت
کیلئے تشریف لائی تھیں، حضرت نے ان کو پس پرداہ تحریکی
میں بلا ولایا۔ ان کو خطاب کرتے ہوئے جو کچھ اس وقت
حضرت نے فرمایا تھا اس کے چند فقرے تلمذ بند کر لئے گئے
تحتیج جو درج ذیل ہیں۔

فرمایا "مَنْ لَمْ يَشْكُرْ الْأَسَاسَ لَمْ يُشْكُرِ اللَّهَ" مجھے
دین کی نعمت آپ کے گھر آنے سے سائی ہے، میں آپ کے گھر کا غلام ہوں۔
غلام کے پاس اگر کوئی اچھی چیز آجائے تو اسے چاہیے کہ تحفہ میں اپنے اُقا کے
سامنے پیش کروے، مجھے غلام کے پاس آپ ہی کے گھر سے حاصل کیا ہوا "وراثت
بُوٹ" کا تحفہ ہے اسکے سوا اور اس سے بہتر میرے پاس کوئی سوغات نہیں۔
جسے میں پیش کرسکوں۔

دین کیلئے ہر موقع پر اللہ کا امر کوتلاش کرتے ہوئے اور ان کا دھیان کرتے
ہوئے لوارے نفر کے تقاضے کی آمیزش سے بچتے ہوئے ان کی تعامل میں لگے رہنا اور
اس کے حکموں کی تلاش اور دھیان کے لیے کاموں میں لگنا ہی رہیا ہے۔

اس طریقے سے چند روز میں دہ بات حاصل ہو سکتی ہے جو دوسرا سے
طریقوں سے ۲۵ سال میں بھی حاصل نہیں ہوتی۔

میں مستورات سے کہتا ہوں کہ دینی کاموں میں تم اپنے گھر والوں
کی مدد گارب جاؤ۔ انہیں الطینان کے ساتھ دین کے کاموں میں لگنے کا موقع
ریدو اور گھر بلوں کاموں کا ان کا بوجھہ بلکا کرو، تاکہ وہ نہ فکر ہو کہ دین
کا کام کریں۔ اگر مستورات ایسا نہ کریں گی تو "حالت الشیطان" ہو جائیں گی۔
دین کی حقیقت ہے جذبات کو اللہ کے اور امر کا پابند کرنا، اُصرف
دینی سائل کے جانے کا نام دین نہیں ہے۔ علماء یہ وردیں کی باتیں اور اپنی
شریعت کے سائل بہت جانتے تھے۔ لیکن اپنے جذبات کو انہوں نے اور امر
الہیہ کا پابند نہیں کیا تھا اس لئے منفوضوب و مردود ہو گئے۔

اسی لفتگو کے اثناء میں کسی خاص معاملہ کے متعلق

حضرت سے دعا کی ورخواست کی گئی تو فرمایا:

جو کوئی اللہ کا تقویٰ اختیار کرے یعنی جذبات کو اور امر الہیہ کے
تابع کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی تمام مشکلیں پر دُرہ غیب سے حل گرتے
ہیں اور ایسے طریقوں سے اس کی مدد کرتے ہیں کہ خود اسے دہم دگمان
بھی نہیں ہوتا۔

مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُجْعَلُ اللَّهُ مُخْرِجًا وَرِزْقًا
مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۔

لے یعنی شیطان کے جاں اور پھنسے جن میں پھنس کے دہ آریوں کو دین کی راہ سے روکتا ہے۔
یہ سفونہ ایک حدیث کا ہے ۱۲۳۔

اللہ کی خاص مدد حاصل کرنے کی یقینی اور شرطیہ تدبیر یہ ہے کہ اس کے دین کی مدد کی جائے۔

”اَنْ تَنْصُرُ وَاللَّهُ يَنْصُرُكُمْ“

اگر تم اللہ کے دین کی مدد کر د تو ہلاک کرنے والی چیزیں تمہارے لئے زندگی اور راحت کا سامان بن جائیں جحضرت ابراہیم علیہ السلام نے جی جان سے اللہ کے دین کی مدد کی تو اللہ نے آگ کو ان کے حق میں گلزار بنایا۔ ایسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اس دریانے جس کی خاصیت ہے بونا ہے اسلامتی کے ساتھ ساحل تک پہنچا ریا۔

(۱۵۱) **أَجَ بِتَارِيْخِ ۲۳ رَجَادِيِّ الْاَوَّلِ ۱۴۳۸ھ بِرُوزِ جَهَارِ شَنبَرِ رَاتِ**
میں دارالعلوم دیوبند کے طلباء کی ایک جماعت آئی ہے رات بوتے عناد حضرت کو اسہمال کا ایک درہ ہو گیا تھا جس سے ضعف انہیا کو پہنچا ہوا ہے، بات کرنے کی طاقت نہیں ہے بعد نماز فجر خاکار مرتب کو بلا یا اور ارشاد فرمایا:

”کان بالکل میرے بیوی سے لگاد و اور سنو، یہ طلباء اللہ کی امانت اور اس کا عطیہ ہیں۔ اس کی قدر اور اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ ان کا وقت ان کی حیثیت کے مناسب پورے اہتمام سے کام میں لگایا جائے اور زراسو وقت بھی ضائع نہ جائے۔ یہ بہت کم وقت میں کے آئے ہیں۔

پہلے میری یہ دو میں اتنیں پہنچا رہے:

(۱۱) اپنے تمام اساتذہ کی توقیر اور ان سب کا ادب احترام

آپ کا خصوصی اور امتیازی فریض ہے۔ آپ کو ان کی ایسی تعظیم کرنی چاہیے جیسی کہ آئندہ دین کی کی جانبی ہے۔ وہ آپ لوگوں کے نئے علم نبوی کے حصول کا ذریعہ ہی اور جس شخص نے کسی کو علم دین کی ایک بات بھی بتلانی وہ اس کا مولیٰ ہو جاتا ہے۔ پھر علم دین کے مستقل اساتذہ کا جو حق ہے وہ بھاجا سکتا ہے بلکہ ان کے رہنمایان کچھ نہزاداعات بھی ہوں تب بھی ادب و تعظیم کا تعلق سب کے ساتھ یکساں رہنا چاہیے خواہ محبت و عقیدت کسی کے ساتھ کم اور کسی کے ساتھ زیادہ ہو، لیکن عظمت میں فرق نہ آنا چاہیے اور دل ان کی طرف سے بد کی نہ آنا چاہیے۔ قرآن مجید نے تو ہر مومن کا یہ حق بتایا ہے کہ ان کی طرف سے اپنے دلوں کے صاف رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جایا کرے۔ فرمایا: **وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غَلَّا لِلَّذِينَ آمَنُوا** (ادرن رکھہ ہمارے دلوں میں ایمان والوں کا کینہ)۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے:-

لَا يُبَلِّغُنِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ شَيْئًا فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ إِلَيْكُمْ وَأَنَا سَلِيمٌ الصَّدْنُ (تم میں سے کوئی مجھے ایک دوسرے کی نہ پہنچایا کرے۔ میں چاہتا ہوں میں جب تمہارے پاس آؤں تو میر سینہ سب کی طرف سے صاف ہو۔)

اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے
وفات کی دعا، اس وقت مانگی جبکہ امت بہت کھسلنے لگی
اور آپ کو خطرہ سواؤ کہیں ناواقفی کی وجہ سے کسی ترے دل
میں میری طرف سے کوئی میل نہ آجائے اور مباراکہ پھر وہ کہیں
بر بار نہ ہو جائے (اسی سلسلہ میں فرمایا)

ان چیزوں کا اجر (یعنی بڑوں چھوٹوں کے حقوق کی
رعایت کا اجر جس کا دینا) (اصلاح ذات البین ہے)
ارکان سے کم ہیں ہے بلکہ زیادہ ہی ہے۔ ارکان کی کنیت
کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو زندگی چاہتے ہیں وہ
ان ارکان سے پیدا ہو سکتی ہے نیزاں اصلاح ذات
البین کا تعلق حقوق العباد سے ہے اور اللہ تعالیٰ تو
اپنے بندوں کے حق میں شفیق و کریم اور روف و حسیم ہے،
اس کے کرم سے تو معافی ہی کی زیادہ امید ہے لیکن بندے
تو ایسے ہی ہیں جیسے کہ تم خود ہو، لہذا ان کے حقوق کی ادائیگی
کا معاملہ نہایت اہم ہے اور پھر اس شعبہ میں علم دین کے
اساتذہ کے حقوق کا معاملہ اور کبھی زیادہ نازک ہے، تو
ان طلباء کو میرا ایک پیغام تو یہ پہنچاو کہ اپنی زندگی کے اس
پہلو کے اصلاح کی خاص طور سے فخر کریں۔

(۲) اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اس نکر میں لگے

رہیں اور اس نکر کے بوجھ کے ساتھ زندگی گزاریں کہ جو کچھ
پڑھا ہے اور پڑھیں گے اس کے مطابق زندگی گزرے
علم دین کا یہہ سہلا لازم حق ہے، دین کوئی فن اور فلسفہ نہیں
ہے بلکہ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ ہے جو انبیاء علیہم السلام
لے کر آئے ہیں۔ اللہ کے رسولؐ نے "علم لامینفع" سے
(یعنی اس علم سے جو عمل پڑالے) پناہ مانگی ہے، اور
اس کے علاوہ بھی عالم بے عمل کے لئے جو سخت وعید ہیں
قرآن و حدیث میں آئی ہیں وہ آپ کے علم میں ہیں، یہ بھی
سمجھ لینا چاہیئے کہ عالم کی بے عملی نماز پڑھنا اور روزہ
ذرکرنا، شراب پینا یا زنا کرنا نہیں ہے، یہ عایدیں کے
عام گناہ ہیں، عالم کا گناہ یہ ہے کہ وہ علم پر عمل نہ کرے
اور اس کا حق ادا نہ کرے۔

قرباں را بیش بود حیرانی

قرآن مجید میں علماء اہل کتاب کے متعلق فرمایا گیا ہے:
فِمَا نَقْضُهُمْ مِنْ ثَيَّبَهُمْ لَعْنَاهُمْ وَجَعَلْنَا قَلْوَبَهُمْ
قَاسِيَةً (ان کی عبید شکنی کی جو نے ان پر لعنت کی اور انکے دلوں کو نہ سخت کر دیا)
(۳) تیسرا بات ان طلباء سے یہ کہی جائے کہ ان کا وقت
بڑا تھا تھی اور وہ بہت تھوڑا وقت لے کر آئے ہیں لہذا
ان کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، بلکہ یہاں کے اصولوں کے

پھر اسی سلسلہ میں فرمایا۔

جتنی ضرورت اس کہے کہ اللہ تعالیٰ سے امیدیں رکھی جائیں۔ اتنی ہی ضرورت اس کو شکش کی ہے کہ غیر اللہ سے امیدیں نہ رکھی جائیں؛ بلکہ ماہوا اللہ سے بالکل صرف نظر کر کے کام کرنے کی مشق کی جائے۔

"إِنْ أَجْرُنَا إِلَّا عَلَى اللَّهِ"

حدیث میں ہے کہ جو لوگ غیروں سے کچھ امیدیں رکھ کر اپنے کام کریں گے قیامت میں ان سے کہہ دیا جائے گا کہ جاؤ، انہیں سے جا کر اپنا اجر لو۔

(۱۵۲) انہی طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

"اقامت صلوٰۃ ساری زندگی کو درست کرنے والی چیز ہے۔ لیکن اقامت صلوٰۃ کی تکمیل ہو گئی ان اوصاف کے پیدا کرنے سے جن کا ذکر نماز کے سلسلہ میں قرآن مجید میں متفق طور پر کیا گیا ہے۔ مثلاً فرمایا گیا:-

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَوةٍ هُمْ خَاتِمُونَ ۝

اور سورہ بقرہ کے پہلے کوئی "الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ" الخ کے بعد فرمایا گیا اول ہم امداد ہم ملکہ حکوم ہوئے اور ان دونوں آیتوں کو ملانے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ خشوع فی الصلوٰۃ بھی اقامت صلوٰۃ میں داخل ہے اور بغیر خشوع کے نماز پڑھنے والے مقیمین صلوٰۃ نہیں ہیں۔ اور نمازوں میں خشوع پیدا کرنے کی تحریک تذہیر کی طرف دوسرا آیت میں اشارہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حضوری

مطابق تعلیم و مذاکرہ کے کاموں میں لگے رہیں۔ پرانوں سے باہمیں کریں اور ان کے ساتھ رہیں اور انہی کی معیت میں شہر (ادلبی) کے عربی مدرسون میں جا کر کام کریں۔

(۱۵۳) دیوبند سے طلباء کی جو جماعت رات آنی ہے پہلے تو اس کو مندرجہ بالا پیغام دیا اس کے بعد جب چائے پینے کے لئے تمہان حضرات حب و ستور حضرت کے قریب اگر بیٹھنے تو حضرت نے ان طلباء سے خود بنفس نفیس گفتگو فرمائی چاہی اور نہایت خیف آواز میں فرمایا۔

"آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ دیوبند جیسے بڑے مدرسے کے شفیق اساتذہ، ابھی شاندار عمارتوں والے اقامات خلائق اور اپنا مانوس ماحول چھوڑ کے آپ یہاں کس واسطے آئے ہیں (پھر خود ہی اپنے اس سوال کا یہ جواب دیا)

اس لئے کہ اللہ کی باتوں کو فروع دینے کی کوششوں میں جان دینے کے شوق کو زندہ کریں اور اس کا طریقہ سیکھیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے ہیں، یقین کے ساتھ ان سے امیدیں لگاتے ہوئے اور اس کے غیر سے بالکل امیدیں نہ رکھتے ہوئے بلکہ غیروں سے امیدیں منقطع کرتے ہوئے کام کرنا سیکھیں۔

"جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ جَهَّابُكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" ۚ

کے تیعن کو زیادہ سے زیادہ بڑھایا جائے۔

وَإِنَّهَا كَبِيرَةٌ إِلَاعَلَى الْحَاسِهِينَ الَّذِينَ
يَقْنُونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ
رَاجِعُونَ ۝

فَرمایا۔ "مُلْقُوا رَبِّهِمْ" کو آخرت سے مخصوص کرنے کی کوئی وجہ نہیں، اللہ کے بنیوں کو نماز کی جیسی حالت میں جو حضوری نصیب ہوتی ہے۔ وہ بھی سکی مصدقی ہے۔

(۱۵۲) اسی سلسلہ میں فرمایا۔ "قَدْ أَنْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ" اور "أُولُوْلَثُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" میں جس فلاح اور کامیابی کا وعدہ ہے اس کو صرف الملاج اخروی ہی میں انحصر کرنے کی کوئی وجہ نہیں بلکہ دنیا میں کامیابی و کامرانی بھی اسی میں داخل ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں میں یہ ایمانی اوصاف ہوں، ہماری غلبی مدد دنیا میں بھی ان کا راستہ صاف کرنے اور فلاح و کامرانی تک ان کو پہنچانے کی ذمہ دار ہے۔

(۱۵۳) اسی سلسلہ میں فرمایا۔ غلبی مدد اور غلبی طاقت جس چیز کا نام ہے وہ بڑے حوالے نہیں کی جاتی بلکہ عین وقت پر ساتھ کر دی جایا کرتی ہے گویا اللہ یے خزانے میں جمع ہے اور ایمان و توکل کی شرط یہ ہے کہ اس پر اعتماد اپنے ہاتھے لی مکسوہہ (حاصل کی ہوئی) طاقت سے زیادہ ہونا جائے۔

(۱۵۴) اسی سلسلہ میں فرمایا۔ "وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ" کو صرف مال و دولت سے مخصوص کرنے کی کوئی وجہ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے

ظاہر و باطن کی جو قسمیں ہم کو دی ہیں، مثلاً نکودرائے اور ما تھا پاؤں یہ سب اللہ تعالیٰ کا اعطیہ ہیں اور اللہ کے کاموں میں اور اس کے دین کے لئے ان چیزوں کا استعمال کرنا بھی اس میں شامل ہے۔

(۱۵۵) ان طلباء ہی سے فرمایا۔ تم اپنی قدر و قیمت تو سمجھو دنیا بھر کے خزانے بھی تمہاری قیمت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی تمہاری قیمت نہیں لگاسکتا، تم انبیا اعلیٰ السلام کے نامیں ہو جو ساری دنیا سے کہہ دیتے ہیں "إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ" تمہارا کام یہ ہے کہ سب سے امیدوں کو منقطع کرنے ہوئے اور صرف اللہ کے اجر پر یقین و اعتماد رکھتے ہوئے تواضع اور تندیل سے مومنین کی خدمت کرو۔ اسی سے عبادت کی تکمیل و تزیین ہوگی۔

(۱۵۶) ایک مشہور دینی جماعت کے ممتاز کارکن اور رہنماء عیادات اور زیارت کے لئے تشریف لائے، حضرت نے ان سے گفتگو کرنے ہوئے فرمایا:

"ہمارے ہاں حساب کتاب نہیں رہتا۔ دینی کام کرنے والوں کو بھی حساب کتاب کی ضرورت اس لئے ہو گئی ہے کہ وہ اعتماد اور اطمینان باقی نہیں رہا جس کے بعد کسی حساب دکتاب کی ضرورت نہیں رہتی، اگر اپنے طرزِ عمل سے وہی اعتماد پھر سیدا کر دیا جائے تو حساب دکتاب میں جو وقت صرف ہوتا ہے وہ خالص دینی کاموں ہی کے لئے بچ رہے۔"

(۱۵۷) ہندوستان کی ایک مشہور سیاسی و مذہبی مجلس کے ایک بڑے رہنماء (جو ہندوستان کے ایک بہت بڑے اور سحر بیان

خطیب بھی ہیں) عیادت اور زیارت کو تشریف لائے۔ دو رن پہلے حضرت پرنہایت سخت درہ پڑھ کاتھا جس کی وجہ سے اس قدر ضعف ہو گیا تھا کہ اکثر اوقات بیوں پر کان رکھ کے بات سُنی جاسکتی تھی۔ جب ان صاحب کی آمد کی اطلاع دی گئی تو اس ناچیز امرتب (ملفوظات) کو طلب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ مجھے ان سے بات کرنا ضروری ہے لیکن ہوتی یہ ہو گی کہ اپنا کان میرے منہ کے قریب کر دینا اور جو کچھ میں کہوں وہ ان سے تم کہتے جانا۔ چنانچہ صاحب جب اندر تشریف لائے تو بات شروع تھیرے ہی ذریعہ سے فرمائی۔ لیکن ڈرین مٹ ہی بعد اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت عطا فرمادی کہ قریباً آدمی گھنٹے تک مسلسل تقریب فرماتے رہے۔ اس مجلس کے وجوہ ارشادات تلمبند کئے جاسکتے تھے وہ ذیل میں لمحہ کئے جاتے ہیں فرمایا مسلم کا مسلم سے ملنا بس اسلام کے فروع کے لئے ہے ورنہ مسلموں اور غیر مسلموں کی ملاقاتوں میں کیا فرق ہے؟ آپ بہاں کہو رہے کہ ہمارے کام کا مطالعہ کریں۔ اس کے بغیر ہماری بات کا شمگھ میں آنا اور ہمارے مقاصد کو پانا مشکل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تعلقات محمدیہ مردہ ہو چکے ہیں، ان کو زندہ کرنا ہے اور بس اسی کی کوششوں میں مر رہا ہے۔

میں نے شروع میں مدرسہ پڑھایا (یعنی مدرسہ میں درس دیا) تو طلباء کا تجوم ہوا اور اچھے صاحب استعداد طلباء کثرت سے آنے لگے۔

میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ میری محنت کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہو گا کہ جو لوگ عالم بننے ہی کے لئے مدرسون میں آتے ہیں مجھ سے پڑھنے کے بعد بھی وہ عالم مولوی بن جائیں گے اور پھر ان کے مشاغل بھی وہی ہوں گے جو آجکل عام طور سے افتخار کئے جاتے ہیں، کوئی طبق پڑھ کر مطلب کرے گا کوئی یونیورسٹی کا امتحان دے کر اسکول کا بچ میں نوکری کرے گا، کوئی مدرسہ میں بیٹھ کر پڑھانا ہی رہے گا۔ اس سے زیادہ اور کچھ نہ ہو گا۔ یہ سوچ کر مدرسہ میں پڑھانے سے میرا دل ہٹ گیا اس کے بعد ایک وقت آیا جب میرے حضرت نے مجھ کو اجازت دے دی تھی تو میں نے طالبین کو ذکر کی تلقین شروع کی اور ادھر میری توجہ زیادہ ہوئی۔ اللہ کا کرنا۔ آنے والوں پر اتنی جلدی کیفیا اور احوال کا ورود شروع ہوا اور اتنی تیزی سے حالات میں ترقی ہوئی کہ خود مجھے حیرت ہوئی اور میں سوچنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کام میں لگے رہنے کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ زیادہ سے زیادہ ہی کچھ اصحاب احوال اور زاکر شاغل لوگ پیدا ہو جائیں، پھر لوگوں میں ان کی شہرت ہو جائے تو مقدمہ چینے کی دعا کے لئے اکوئی اولاد گئے لئے تعویذ کی درخواست کرے کوئی تجارت اور کاروباریں ترقی کی دعا کرائے اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ ان کے ذریعہ بھی آگے کو چند طالبین میں ذکر د تلقین کا سلسلہ چلتے۔ یہ سوچ کر ادھر بھی میری توجہ ہٹ گئی اور میں نے یہ طے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہر و باطن کی جو قوتوں عطا فرمائی ہیں ان کا صحیح مصرف یہ ہے کہ ان کو اسی کام میں لگایا جائے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوتوں صرف فرمائیں اور وہ کام ہے اللہ کے بندوں اور فاصل کر فاصلوں اور بے طلبیں

کو اللہ کی طرف لانا اور اللہ کی باتوں کو فروغ دینے کے لئے جان کو بے قیمت کرنے کا رواج دینا۔ بس یہی ہماری تحریک ہے اور یہی ہم سب سمجھتے ہیں۔ یہ کام اگر ہونے لگے تو اب سے ہزاروں گئے زیادہ مدرسے اور ہزاروں گئی زیادہ ہی خالقا ہیں قائم ہو جائیں۔ بلکہ ہر سماں مدرسہ اور فانقاہ ہو جائے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی نعمت اس علوی انداز سے بٹنے لگے جو اس کے شایان شان ہے۔

حضرات! اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک قوت دی ہے۔ اس سے میرا مطلب بیان و تقریر کی قوت نہیں ہے بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک جماعت کے بڑے اور اس کے مطلع ہیں، ہزاروں آدمی آپ کی بات مانتے ہیں، آپ ان کو متوجہ کیجئے کہ ہمارے آدمیوں کے ساتھ کچھ دنوں و کروہ ہمارے کام کو سمجھیں اور سیکھیں اور پھر اپنے علقوں میں یہ کام کریں۔ اس سے انشاء اللہ وہ بہت کام کے بنجائیں گے۔

حضرات! ایمان کے رو بازو میں ایک اللہ و رسول ﷺ کے دشمنوں پر غلظت و شدّت اور دوسرا اللہ و رسول ﷺ کے مالنے والوں اور محبوں پر پرشفقت و رحمت اور ان کے مقابلے میں فردتی اور زلت۔

”اَذْلَلُهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اَعِزَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ
اَشِدَّ اُخْلَى الْكُفَّارِ رُحْمَانٌ بَيْتَهُمْ“

ایمان والوں کی ترقی و پرواز کے لئے یہ دنوں بازو ضروری ہیں۔ ایک بازو سے کوئی جانور بھی نہیں اڑ سکتا۔

ان صاحب نے جو حضرت سے عقیدت اور نیاز مندرجہ کا بھی تعلق رکھتے تھے حضرت کے ارشادات سن کر عرض کیا کہ جوانی اور طاقت کا سارا زمانہ تو درسرے کاموں میں صرف ہوگا۔ اس وقت کسی بزرگ نے نہ ہی بھینا، اب میں بوڑھا ہو گیا اور کسی نئے کام کی ہمت و طاقت نہیں رسی تو حضرت مجھ سے اپنا کام لینا چاہتے ہیں۔ اب میں کسی کام نہیں رہا ہوں۔

حضرت نے ارشاد فرمایا۔ اگر فی الحقیقت آپ پہلے یہ سمجھتے تھے کہ آپ میں کچھ طاقت و قوت ہے اور آپ کچھ کر سکتے ہیں تو اس وقت آپ اللہ کے کام کے قابل نہ تھے اور اگر آپ آپ کو یقین ہو گیا ہے کہ آپ میں کوئی قوت و طاقت نہیں ہے اور آپ کچھ کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو اب ہی آپ اللہ کے کام کے قابل ہوئے ہیں۔ اللہ کا کام کرنے اور اس کی مدد کے مشتق ہونے کے شرالٹ میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بالکل عاجز و لاچا رہے اور صرف اللہ ہی کو کار ساز یقین کرے، اس کے بغیر مدد نہیں ہوتی۔ حدیث قدسی یہ ہے کہ میں انہیں کے ساتھ ہوں جن کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں۔

فرمایا۔ میں سیاسی کام کرنے والوں کا بھی ممنون ہوں، انہوں نے گورنمنٹ کو اپنی طرف متوجہ کئے رکھا، جس کی وجہ سے میں اتنے دنوں اطہیان سے اپنا کام کر سکا۔

آخر میں رخصت ہوتے وقت ان صاحب نے دعا کی درخواست کی تو اس پر فرمایا :

"حضرت! ہر سلامان کے لئے اس کی غیبت میں دعا کرنا وہ حقیقت اپنے لئے دعا کرنے ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب کوئی سلامان اپنے کسی سلامان بھائی کے لئے خیر و فلاح کی کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے تھے ہیں۔ **وَلَلَّفَ مِثْلُ ذَلِكَ**، یعنی اے اللہ کے بندے یہی چیز اللہ تھے بھی اے۔ پس ہر سلامان کے لئے کسی بہتری کی دعا درحقیقت فرشتوں سے اپنے لئے دعا کرنے کی ایک تقدیمی تدبیر ہے۔"

قسط نمبر ۱۴

۱۴۰ فرمایا۔ اس دینی دعوت کے سلسلہ میں ہر طبقہ کے سلامان سے ملنا اور ان سب کو اس کی طرف لانے کی سعی کرنا ضروری ہے۔ میں اپنا ایک وائد سناتا ہوں (اس کے بعد مولانا نے ایک مشهور عالم دین کے متعلق جو اس عصر کے بڑے عالم اور شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحبؒ کے محتملا شاگرد میں سے ہیں، بتایا) کہ انہوں نے ایک رفعہ برسر عام حضرت مولانا..... نور اللہ مرقدہ کے متعلق بہت ہی خراب اور بالکل ہی غلط بعض آئیں کہیں جس سے میرا بہت ہی دل دکھا۔ اور میری حالت یہ ہو گئی کہ میں ان کی صورت دیکھنا ہمیں چاہتا تھا..... کوئہ دنوں بعد جب میں اس کام میں لگا ہوں تو ایک دن میرے دل میں آیا کہ ان صاحب کے متعلق میرا یہ طرز عمل

ٹھیک نہیں ہے۔ آخر دو من دسلم ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے فیوض بھی ان کے اندر ضرور ہوں گے۔ قرآن مجید کے علمی انوار بھی ان کے پاس ہیں۔ جس شخص میں خیر کے اتنے پہلو ہوں اس سے اتنی دوری اختیار کر لینا خود اپنا نقسان کرنا ہے لہذا خود مجھے جا کر ان کی زیارت کرنی چاہیئے اور ان کے ان دینی کمالات کی وجہ سے مجھے ان کا اکرام کرنا چاہیئے۔ اور ان کی جس بات سے میرا رسول کھا اس میں یہ بھی احتیال ہے کہ یہ باتیں ان سے کسی دوسرے شخص نے اسی طرح کہی ہوں اور ان کی غلطی صرف اتنی ہی ہو کہ انہوں نے ان کو تبعی سمجھ کے اس عام موقع پر نقل کر دیا ہو اسی طرح کی کوئی اور اجتہادی غلطی اس معاملہ میں ان سے ہوئی ہو۔ بہرحال غلطی ایسی نہیں ہے جس کی وجہ سے ان کو اس طرح چھوڑ دیا میرے لئے درست ہو۔

فرمایا۔ یہ باتیں میں نے اپنے نفس کو تنہائیوں میں بیٹھ کر بیٹھ کے سمجھا ہیں اور میری ان باتوں کے جواب میں میرے نفس نے جو جو چیزیں پیش کیں۔ میں نے ان سب کو رسیوں سے رد کیا اور "زیارت مسلم" اور "اکرام مسلم" پر جن جن اجزیں بشارتیں نصوص میں وارد ہوئی ہیں، میں نے ان کو یاد کیا اور اپنے نفس کو یاد دلایا اور بالآخر خود ان کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔

پھر مجھے اس میں تردہ ہوا کہ مجھے اس وقت انکے پاس صرف شرعی زیارت ہی کی نیت سے جانا چاہیئے یاد دینی دعوت پیش کرنے کا تھد کرنا چاہیئے (یعنی ان دونوں صورتوں میں کون سی اولیٰ اور احباب الی اللہ

ہے، بالآخر میں نے یہ طے کیا کہ "زیارت" اور "دعوت" کی مستقل نیت کر کے مجھے ان کی خدمت میں خاص رونا چاہیے۔ اس میں انشاء اللہ دونوں چیزوں کا پورا پورا اثواب ملنے کا چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا اور یہ ملاقات پھر بہت سی برکتوں اور بہت سے فائدوں کا ذریعہ بنی۔

(۱۴۱) اسی سلسلہ کلام میں فرمایا ۔ ہمارے بعض خاص حضرات میرے اس رویہ سے ناراضی ہیں کہ میں اس دینی کام کے سلسلہ میں ہر طرح اور ہر وضع کے لوگوں اور مسلمانوں کے ہر گروہ کے آدمیوں سے ملتا ہوں اور مسلمان چاہتا ہوں اور اپنے لوگوں سے بھی ان کے ساتھ ملنے جانے کو کہتا ہوں لیکن میں اپنے حضرات کی اس ناراضی کو سہنا اور ان کو معذور قرار دیتے ہوئے ان کو بھی اسی طرف لانے کی پوری سعی کرتے رہنا شکر واجب کا ایک حصہ تھا جو بھتائیں۔

۶۰ جو حق بر تو باشد تو بر خلق باش

ان حضرات کا خیال ہے کہ یہ طرز عمل ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ کے طریقہ اور مذاق کے خلاف ہے۔ لیکن میرا ہنا یہ ہے کہ جس چیز کا دین کیلئے نافع اور نہایت مفید ہونا دلائل اور تجربہ سے معلوم ہو گیا اس کو صرف اس نے افتخار نہ کرنا کہ ہمارے شیعہ نے یہ نہیں کیا، بلکہ غلطی ہے۔ شیعہ، شیعہ ہی تو ہے، اخدا تو نہیں ہے۔

(۱۴۲) فرمایا ۔ اس دینی کام (تبليغ دین اور اصلاح امت کی عوامی تحریک) کی طرف مجھے متوجہ کرنا اللہ تعالیٰ کی ایک خاص تائید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے کچھ ایسی خصوصیات حاصل تھیں کہ جن بعض اکابر کو

میرے اس کام کے متعلق پوری اعلومات نہ ہونے کی وجہ سے کبھی کچھ شکوہ بھی ہوئے تو انہوں نے بھی میری وجہ سے سکوت اختیار کیا اور اپنے اختلاف رائے کو ظاہر نہیں فرمایا، میری وہ خصوصیات یہ ہیں :
ایک تو یہ کہ میری نیازمندی کا تعلق اپنے زمانہ کے سب ہی بزرگوں سے رہا اور الحمد للہ سب کی عنایات اور سب کا اعتماد مجھے حاصل رہا۔ دوسرے یہ کہ میرے والد ماجد ایک عالی مرتبہ اور متفق علیہ بزرگ تھے۔ اور باہم بہت سے اختلافات رکھنے والے اہل دین کے مختلف طبقے ان پر متفق تھے۔
تیسرا یہ کہ میرا خاندان ایک خاص اثر اور عزت و جاہت رکھنے والا خاندان تھا۔

(۱۴۳) فرمایا ۔ علماء حق کو میرا یہ پیغام ادب و احترام کے ساتھ پہنچا و کہ آپ لوگوں کو میری اس تحریک کے متعلق جو حسین ظن یا کچھ توجہ ہوئی ہے تو وہ ان بچا کے آن پڑھ میواتیوں کے بیان کرنے یا ان میں کچھ اصلاحی تغیر کے متابدہ سے ہوئی ہے جو پہلے گوبرتک پوجتے تھے اور اس نے اگلے مشرکوں سے بھی کھٹیا تھے (کیونکہ تو خوبصورت مورتیوں اور چکدار پھروں ہی کو پوجا کرتے تھے) تو ایسے گرے ہوئے لوگوں کی خبر سانی یا متابدہ سے کام کا صحیح اندازہ کیونکہ ہو سکتا ہے۔ آپ جیسے حضرات اگر براہ راست مجھ سے مل کر اس کام کو سمجھیں تو اصل تدریجیت معلوم ہو۔

(۱۴۴) فرمایا ۔ ہماری اس تحریک کا ایک خاص تقدیر یہ ہے کہ مسلمانوں

کے سارے جذبات پر دین کے جذبہ کو غالب کر کے اوس راست سے مقصد کی وحدت پیدا کر کے اور "اکرام مسلم" کے اصول کو رواج دے کے پری فرم کو اس حدیث کا مصدقہ بنایا جائے:-

الْمُسْلِمُونَ كَجَسِيدٍ وَاحِدٍ

(۱۴۵) فرمایا — ہمارے اس کام میں اخلاص اور صدق دل کیسا تھے اجتماعیت اور شوری بینہم کی (یعنی مل جمل کا اور باہمی مشورہ سے کام کرنے کی) بڑی ضرورت ہے اور اس کے بغیر بڑا خطرہ ہے۔

(۱۴۶) بعض خدام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا : "حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ رضا سے فرماتے تھے کہ میں تمہاری نگرانی سے مستغنى نہیں ہوں" میں کہی آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں کہ میرے احوال پر نظر کیجئے اور جو بات ٹوکنے کی ہو، اس پر لو کئے ۔"

(۱۴۷) فرمایا — حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے عاملوں کے پاس سے جب کوئی قادر نہ تھے تو آپ ان سے عاملوں کی خیریت پوچھتے اور ان کے حالات دریافت کرتے، لیکن اس کا مطلب خیریت اور دینی حال پوچھنا ہوتا تھا زکر آجکل کی مردگانہ مزاج پرسی۔ چنانچہ ایک عامل کے پاس سے کہنے والے قادر سے جب آپ نے عامل کی خیریت پوچھی تو اس نے کہا:

"وہاں خیریت کہاں ہے؟ میں نے تو ان کے دسترخوان پر دکوڑی سالن جمع دیکھے" گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرز زندگی پر صحابہ کرام کو چھوڑ

گئے تھے بس اسی پر قائم رہنا ہی ان حضرات کے نزدیک خیریت کا معیار تھا
۱۴۸) فرمایا — اللہ سے اس کا نفل اور رزق وغیرہ تو مانگنا فرض ہے اور یہی عبارت و خدمت وغیرہ کا رینا ہی میں معاوضہ چاہنا حرام ہے۔

۱۴۹) فرمایا — کسی مسلمان کو اس کی بے راہ روی کی وجہ سے قطعی طور سے کافر ہینا اور خلود فی النار والی تکفیر کرنا بڑا بھاری کام ہے بہ کفر دُونَ كُفُر کا اصول صحیح ہے۔ تمام معاوصی کفر ہی کے فروع اور اس کی اولاد ہیں اور اسی طرح تمام معروفات ایمان کی آل اولاد ہیں۔ پس ہماری پر تحریک درحقیقت تجدید ایمان اور تکمیل ایمان کی تحریک ہے۔

۱۵۰) فرمایا — اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهُوَ أَوَّلَ عِبَادًا۔ رہنی کاموں کو بے مقصد یا طاقت امرِ الہی و رضا و خداوندی اور ثوابِ اخروی کے سوا اور مقاصد کے لئے کرنا بھی دین کو ہبو ولعب بنانا ہے۔

۱۵۱) فرمایا — ظُنُنُ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرًا اور إِنْ حُسْنَ الظُّنُنِ مِنَ الْعِبَادَةِ، کا حکم اس حالت میں ہے کہ جب کسی سے کوئی معاملہ کرنا ہو تو اس وقت صرف حُسنِ ظن سے ہی کام لینا چاہئے اور جب معاملہ کرنا ہو تو اس وقت کے لئے "الْحَزْمُ سُوءُ الظُّنِّ" کا حکم ہے۔ معامل اور موقع کافر نسبت سے نصوص میں بڑی غلط فہمیاں ہوتی ہیں۔

۱۵۲) فرمایا — ہمارے سب کام کرنے والوں کو یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ تبلیغ کے لئے باہر جانے کے زمانہ میں باخصوص علم اور ذکر کی طرف بہت زیادہ توجہ کریں علم اور ذکر میں ترقی کے بغیر دینی ترقی ممکن

نہیں، نیز علم اور ذکر کی تحصیل و تکمیل اس راہ کے اپنے بڑوں سے دا بستگی رکھتے ہوئے اور ان کے ذمہ داریت اور ان کی نگرانی میں ہو۔

انبیاء علیہم السلام کا علم و ذکر اللہ تعالیٰ کے زیر ہدایت اور اس کے ماتحت ہوتا تھا اور حضرات صحبہ کرام کا علم و ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے ماتحت اور آپ کی نگرانی میں ہوتا تھا۔ پھر ہر زمانے کے لوگوں کے لئے اس قرآن کے اہل علم اور اہل ذکر کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلف رہیں۔ اہمذ اعلم و ذکر میں اپنے بڑوں کی نگرانی سے استغفار نہیں۔

یہ بھی ضروری ہے کہ خاص کر باہر لکلنے کے زمانہ میں صرف اپنے خاص مشاغل میں اشتغال رہے اور دوسرے تمام مشاغل سے بکیسوار ہاجائے اور وہ خاص مشاغل یہ ہیں:

۱۔ تبلیغی گثت ۲۔ علم ۳۔ ذکر ۴۔ دین کے لئے گھر جبوڑ کرنے کلنے والے اپنے ساتھیوں کی خصوصیاً اور عام خلق اللہ کی عموماً خدمت کی مشق۔
۵۔ تصحیح نیت اور اخلاق و احتساب کا اہتمام۔ اور اہم نفس کے ساتھ بار بار اس اخلاق و احتساب کی تجدید۔

یعنی اس کام کے لئے نکلنے وقت بھی یہ تصور کرنا اور اتنا سفر میں بھی ہار بار اس تصور کو تازہ کرتے رہنا کہ ہمارا یہ نکلنے صرف اللہ کے لئے اور ان نعمائے آخرت کی طمع میں ہے جن کا وعدہ وہ دین کی نصرت و خدمت کرنے اور اس راہ کی تکلیفیں اٹھانے پر فرمایا گیا ہے۔ یعنی ہار بار اس دھیان کو دل میں جمایا جائے کہ اگر میرا یہ نکلنے خالصاً مخلصاً ہوگیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول فرمایا

تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے وہ نعمتیں ضرور ملیں گی جن کا وعدہ اس کام پر قرآن پاک اور حدیث میں فرمایا گیا ہے اور وہ یہ ہوں گی۔

بہر حال ان الہی وعدوں پر یقین اور ان کی امید کے دھیان کو بار بار تازہ کیا جائے اور اپنے سارے عمل کو اسی یقین اور اسی دھیان سے باندھا جائے۔ بس اسی کا نام ”ایمان و احتساب“ ہے اور یہی ہمارے عمل کی روح ہے۔

(۱۷۳) فرمایا۔۔۔ ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں رہا۔ اللہ کے وعدوں پر یقین اور اعتماد پیدا کرو اور کھپراں یقین داعتماد میں کی بنیار پر کام کرنے کی مشق کرو۔ اور اللہ کے وعدوں کے معنی بھی خود نہ لھڑو۔ تمہارا علم اور تجربہ بہت محدود ہے۔ اس کے وعدوں کا مطلب اس کی شان کے مطابق کم جھوا اور اس سے یونہی مانگو کر اپنی شان اور قدرت کے شایان ان وعدوں کو پورا فرم۔ اخروی نعمتوں کی معنویت اور اصل حقیقت تم اس دنیا میں کیا اندازہ کر سکتے ہو۔ اور کیونکہ اندازہ صحیح ہو سکتا ہے۔ جب کہ حدیث قدسی میں ان نعمتوں کی صفت ہی یہ بیان کی گئی ہے۔۔۔

لَا عَيْنٌ رَأَتُ وَلَا أُذْنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى
قَلْبٍ بَشَرٍ (یعنی جنت میں ایسی نعمتیں ہیں جو نہ تو کسی آنکھ
نے دیکھی ہے اور نہ کسی کا ان نے ان کا طالب نہ ہے اور نہ کسی انسان
کے دل میں کبھی ان کا خیال آیا ہے)

انوس ہم نے اس کے موعود نعمتوں کو لپنے علم و فہم اور اس دنیا کے

(۱۷۷) فرمایا۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ حضرت ابو بکرؓ نو حضرت عمر رضی
بھی دین کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کر دینے کے باوجود اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی
کھلی ہوتی اور یقینی بشارتوں کے باوجود اس دنیا سے روتے ہوئے گئے۔

(۱۷۸) فرمایا۔ پسند کو مباشرت کے قائم مقام سمجھنا بڑا ارجو کا ہے اور
شیطان یہی کرتا ہے کہ آدمی کو پسند ہی پر قانع بنادیتا ہے۔

(۱۷۹) اس ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ کسی اچھے کام کو صرف اپنا
سمجھ لینے سے اس کام میں شرکت نہیں ہوتی بلکہ اس میں
لگنے اور اس کو کرنے ہی سے اس کا حق ادا ہوتا ہے، لیکن
بہت سے لوگوں کو شیطان یہ فریب ریتا ہے کہ وہ کام سے
ستفقوں ہو جانے کو کام میں لگ جانا اور شرک ہونا سمجھتے
لگتے ہیں۔ یہ شیطان کا بڑا ارجو کا ہے۔

(۱۸۰) فرمایا۔ ہماری یہ تحریک دشمن نواز روست کش ہے،
آجائے جس کا جی چاہے۔

(۱۸۱) فرمایا۔ بھئی! اس وقت کفر والیاں بہت طاقتور ہے ایسی
حالت میں منتشر اور الفرادی اصلاحی کوششوں سے کام نہیں چل سکتا ہذا
پوری قوت کے ساتھ اجتماعی جدوجہد ہونی چاہیے۔

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا

(۱۸۲) فرمایا۔ علم و ذکر کو مضبوطی سے ہمانے کی زیادہ سے زیادہ
ضد رستہ مگر علم و ذکر کی حقیقت اپنی طرح سمجھ لینی چاہیئے۔

اپنے مشاہدہ اور تجربہ کے مطابق سمجھ کر اور اس کی امید باندھ کے بڑا
گھاٹا کر لیا نقذ حجرتُمْ وَاسِعًا" اس کی عطا اور دارود دش توس
کے شامان شان ہوگی۔

(۱۸۳) فرمایا۔ تم نے "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةَ وَالْإِنْسَانَ إِلَّا
لِيَعْيِدُ دُونٍ" کے مقتضی سے جس قدر انحراف کیا اسی قدر خلقنا ائمہ
مَأْبِي السَّهْوَاتِ وَالْأَرْضِ" کا ظہور کم ہو گیا۔ یعنی جس نسبت سے تمہاری
عبدیت میں کمی آئی اسی نسبت سے زمین دا سماں کی کائنات سے تمہاری
تمتع (نفع حاصل کرنا) کم ہو گیا۔

کائنات کو تمہارا خاکہ اسی لئے بنایا گیا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کا کام
کرو اور اس کی اطاعت و بندگی اور اس کی مرضیات کے فروع میں لگے رہو
جب تم نے اپنا یہ فرضیہ چوڑ دیا تو زمین و آسمان بھی تم سے پھر گئے۔

قسط انہیں بر

(۱۸۵) فرمایا۔ جن مقامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوں کی
بازی لگائے، بلکہ اس جان بازی کے شوق و عشق سے حاصل کرنا بتلا یا تھا
اور صاحبہ کرام نے دین کی راہ میں اپنے کو مٹا کے جو کچھ حاصل کیا تھا کم لوگ
اس کو آرام سے لیتے لیتے کتابوں سے حاصل کر لینا چاہتے ہو۔

(۱۸۶) فرمایا۔ جوانعامات و ثمرات خون سے وابستہ تھے
ان کے لئے کم از کم پسینہ تو گرانا چاہیئے۔

ذکر کی حقیقت ہے عدم غفلت اور فرائض دینی کی ادائیگی میں لگا رہتا اعلیٰ درجہ کا ذکر ہے اس لئے دین کی نصرت اور اس کے فروغ کی جدوجہ میں مشغول رہنا ذکر کا ادنیٰ درجہ ہے بشرطیکہ اللہ کے اوامر اور مواعید کا خیال رکھتے ہوئے ہو۔

اور ذکر نفلی اس واسطہ ہے کہ آدمی کے جواہفات فرائض میں مشغول ہوں وہ لا یعنی میں نہ گزریں۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ فرائض میں لگن سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے اور جو ترقی حاصل ہوتی ہے وہ لا یعنی میں لگا کے اس کو بر بار کر دے لپس اس سے حفاظت کے لئے ذکر نفلی ہے۔ الفرض فرائض سے جو وقت فارغ ہواں کو ذکر نفلی سے معمور کھا جائے تاکہ شیطان لا یعنی میں مشغول کر کے ہمیں نقصان زہنی پکے (بین ذکر نفلی کا ایک خاص اہم فائدہ یہ ہے کہ اس سے عام دینی کاموں میں ذکر کی شان پیدا ہوتی ہے اور اللہ کے اوامر کی تعمیل میں اور اس کے مواعید کے شوق میں کام کرنے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے)

اسی سلسلہ میں فرمایا — فرائض میں لگنا حتیٰ کہ مازٹر ہنا بھی اگر اللہ کے اوامر اور مواعید کے دھیان کے ساتھ نہ ہو تو اصلی ذکر نہیں بلکہ صرف جوارح کا ذکر ہے اور قلب کی غفلت ہے اور حدیث میں قلب ہی متعلق ہے کہ *إِذَا أَصْلَحَ صَلْحَ الْجَسَدَ كُلَّهُ وَإِذَا فَسَدَ فَسَدَ الْجَسَدَ كُلَّهُ*۔ (کہ انسان کے وجود میں یہی وہ مرکز ہے کہ اگر وہ صحیک ہو تو یہ سب صحیک ہے اور اگر وہ خراب ہے تو پھر سب خراب ہے

تو اصلی چیز ہے لبِ اللہ کے اوامر اور اس کے مواعید رہیان کے ساتھ اللہ کے کاموں میں لگا رہنا، یہی ہمارے نزدیک ذکر کا حاصل ہے۔ اور علم سے مراد رسمی مسائل اور رسمی علوم کا صرف جانا نہیں ہے دیکھو یہودا بھی شریعت اور آسمانی علوم کے کیسے عالم تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نابیوں تک کے ہلنے اور نقشے، حتیٰ کہ ان کے جسموں کے تل کے متعلق بھی ان کو علم تھا۔ لیکن کیا ان باتوں کے صرف جانے نے ان کو فائدہ دیا ہے ۱۸۲ اس سلسلے میں فرمایا — علم کے لئے جو وضعِ محمدؐ تھی (یعنی طلبِ رعemat و محبت کے ساتھ صحبت و اختلاط سے علم حاصل کرنا اور زندگی سے زندگی سیکھنا) اس کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کے ذریعہ جتنا علم بڑھتا تھا، اسی قدر اپنے جہل اور اپنے علمی درماندگی کا احساس ترقی کرتا تھا اور علم حاصل کرنے کا جو طریقہ اب رائج ہو گیا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ علم جتنا آتا ہے زعم اس سے زیادہ پیدا ہوتا ہے پھر زعم سے کبر پیدا ہوتا ہے اور کبر جنت میں نہیں جائے گا۔ علاوہ ازیں علم کے زعم کے بعد تحصیل علم کی تڑپ نہیں رہتی جس کی وجہ سے علمی ترقی فتح ہو جاتی ہے۔

۱۸۳ ایک صاحب جو تبلیغی جماعت میں جانے کے لئے اپنے

لہ بعض روایات میں ہے کہ عض عملہ اور ہرور نے حضرت فاروقی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے کسی خاص حصہ پر تبلیغ کی تسمیہ کا کوئی نشان دیکھو کر ان کے متعلق بتلاریا تھا کہ شخص بنی آخر الزمان کا فیلفہ ہے اور بیت المقدس، اس کے دور میں نفع ہو گا۔ اس تسمیہ کی متعدد روایات "ازالت الخفاء" میں حضرت غماہ ولی اسٹر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہیں۔ م

کو پیش کر جکے تھے۔ انہوں نے حضرت کی خدمت میں سو روپے بھی پیش کئے، حضرت نے ان کو قبول فرمایا اور فرمایا "میراجی چاہتا ہے کہ جو لوگ دین کے لئے جسم و جان کا حصہ نہیں ہوتے میں ان کامال نہ لینے کا قسم کھالوں" ॥

پھر اسی سلسلہ میں فرمایا — انصاف مال جو عبادت ہے تو یہ مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ اس کی مشروعیت اس واسطہ سے ہے کہ مال سے والستگی نہ پیدا ہو۔

(۱۸۲) فرمایا — عہد فاروقی میں اُمّۃ المؤمنین حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے بیہان ممالِ عینت میں سے ان کا حصہ پہنچا (جو غالباً مقدار میں زیارت ہو گا اور اس سے ان کو دستگی کا اندر لشہ ہوا ہو گا) تو میکل ہونکر دعا فرمائی اے اللہ اس گھر میں یہ پھر ز آئے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا (یعنی ان کی وفات ہو گئی)۔

(۱۸۳) فرمایا — ایمان یہ ہے کہ اللہ و رسول کو جس چیز سے خوشی اور راحت ہو بندا کو بھی اسی سے خوشی اور راحت ہوا اور جس چیز سے اللہ و رسول کو ناؤواری اور تکلیف ہو بندا کو بھی اس سے ناؤواری اور تکلیف ہوا اور تکلیف جس طرح تواریخ سے ہوتی ہے اسی طرح سوئی سے بھی ہوتی ہے۔ بس اللہ اور رسول کو ناؤواری اور تکلیف کفر و شرک سے بھی ہوتی ہے اور معاصی سے بھی لہذا تم کو معاصی سے ناؤواری اور تکلیف ہوں چاہیے۔

(۱۸۴) ایک روز یعنی عاجز (مرتب ملفوظات) ایسے وقت حضرت کے چھربے میں پہنچا کہ بعض میواتی خدام حضرت کو نمازِ ظہر کے لئے

و ضوکار ہے تھے (مرض الوفات کے آخری ایام میں شدت ضعف کی وجہ سے حضرت کو لیٹی لیٹے وضو کرایا جاتا تھا) میرے پہنچے پر حضرت نے ارشاد فرمایا :

"حضرت عبد اللہ بن عباسؓ خدا و جو دیکھ علم دیں میں ان کا درجہ یہ تھا کہ حضرت فاروق رضی اللہ عنہ ان کو اکابر صحابہ کے ساتھ بھٹلتے تھے اور با دریکارہوں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا تھا اور اس کے بعد مددوں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا وضو بھی دیکھا ہو گا پھر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے تھے اور اس سے ان کا مقصد تعلم بھی ہوتا تھا۔

(۱۸۴) جو میواتی خدام حضرت کو اس وقت وضو کر ہے تھے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پھر اس عاجز سے ارشاد فرمایا۔

"میں ابھی ان لوگوں سے یہ کہہ باتھا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میری نماز اچھی ہوتی ہے لہذا تم مجھے وضو کرتے وقت بیمار کی خدمت کی نیت کے علاوہ یہ نیت بھی کیا کہ کلے اللہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اس بندے کی نماز ہم سے اچھی ہوتی ہے۔ تو ہم اس کو اس لئے وضو کرتے ہیں کہ اس کی نماز کے ثواب میں ہمارا حصہ ہو جائے۔

پھر فرمایا یہ میں ان لوگوں کو بتلاتا ہوں لیکن میں اگر خود یہ سمجھنے لگوں کہ میری نمازان لوگوں سے اچھی ہوتی ہے تو مردوم ہو جاؤں گا اس لئے میں اپنے اللہ سے یوں دعا کرتا ہوں کلے اللہ تیرے یہ سارہ دل بندے میرے متعلق یہ گمان رکھتے ہیں کہ میری نماز اچھی ہوتی ہے اور اسی لئے

یہ بیچارے تجھے وضو کرتے ہیں۔ تو محض اپنے کرم سے ان کے گمان کی لاج رکھ لے اور میری نماز کو قبول فرمائے اور اس کے ثواب میں اپنے ان بندوں کو بھی حصہ دے۔

پھر وضو کرانے والے ان میواتیوں کی طرف مخاطب

ہو کر فرمایا:

"تم لوگ ان علماء کی خدمتیں کرو جو ابھی تک تمہاری قوم کو دین سکھانے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے ہیں۔ میرا کیا ہے، میں تو تمہارے ملک میں جاتا ہی ہوں تم نہ بلا وجہ بھی جاؤں گا، جو علماء ابھی تمہاری طرف متوجہ نہیں ہیں، ان کی خدمتیں کرو گے تو وہ بھی تمہاری قوم کی دینی خدمت کرنے لگیں گے"

۱۸۸ فرمایا—شیعہ کی خدمت اس لئے اور اس نیت اور اس ارادے سے کرنی چاہئے کہ اس کے ذریعہ عادت اور مشق ہو جائے اللہ کے بندوں کی خدمت کی۔

پھر فرمایا—نیت کے ساتھ عبادومنین کی خدمت سیڑھی ہے عبادیت کی۔

۱۸۹ مشورہ کی تاکید کرتے ہوئے ایک دفعہ ارشاد فرمایا:

"مشورہ بڑی چیز ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تم مشورہ کیلئے اللہ پر اعتماد کر کے جم کے بیٹھو گے تو اٹھنے سے پہلے تم کو رُشد کی توفیق مل جائے گی"

پھر فرمایا—یہ مفہون کسی حدیث میں آیا ہے۔ اس وقت اصل حدیث تجھے یاد نہیں۔

۱۹۰ فرمایا—حضرت فاروق اعظمؑ اور اسی طرح دوسرے صحابہؓ کرامؓ

کی آمد نیاں بہت تھیں اور اپنے اوپر بڑھ کرنے میں بھی بڑے جزر سس
واقع ہوئے تھے۔ ان کا کھانا پہنچنا بہت ہی سیلوی تھا اور نہایت سادہ
بلکہ نقیر ان زندگی گزارنے تھے۔ اس کے باوجود ان میں سے بہت سے دنیا
سے مفروض ہو گئے۔ کیونکہ وہ اپنی ساری آمدی ریں کی راہ میں خرچ کر رہے
تھے۔ دراصل مومن کا روپیہ اسی لئے ہے کہ وہ اللہ کے کام آئے۔

۱۹۱ () جھرے میں بچھے ہوئے ایک پلنگ کی طرف اشارہ کرتے

ہوئے اس عاجز (مرتب) سے فرمایا:

"یہ پلنگ میری والدہ کے دارا کا ہے اور بہادر استعمال میں
رہتا ہے" (بعد میں حاب لگایا تو معلوم ہوا کہ قریباً انہی برس اس پر
گزر چکے ہیں۔)

پھر فرمایا—برکت یہی کہ کوئی چیز عادۃ جس وقت اور جس
حالت میں ختم ہو جانی چاہیئے وہ اس میں ختم نہ ہو اور باقی رہے۔

فرمایا—حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بعض اوقات
کھلنے وغیرہ میں برکت کے جو واقعات ہوئے ہیں ان کی نوعیت یہی تھی کہ اصلی
چیز ختم نہیں ہو قی تھی۔

۱۹۲ () فرمایا—"کُلَّ يَوْمٍ فِي شَاءٍ" کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ
اور جیسے جیسے لظیم الشان اور محیر العقول کام اللہ پاک پہلے کر جکے ہیں ان
سے ہزاروں ہزاروں بھے کام وہ ہر ان کر سکتے ہیں اور ان کی تدریت کاملہ
بہ ابراپنا کام کر قی رہتی ہے۔

۱۹۳ بمبئی کے مشہور اور دروز نامہ "الہلال" کے مالک ایڈیٹر حافظ علی بھادر خاں بی۔ اے حضرت کے مرض الونات ہی میں ایک دن حضرت کی زیارت کیلئے تشریف لائے۔ حضرت نے انہیٰ ضعف و ناتوانی کے باوجود قریباً آرہ گھنٹہ ان سے گفتگو فرمائی وہ اس گفتگو سے بہت ہی متأثر ہوئے اور بمبئی پہنچ کر انہوں نے "الہلال" کی چند راشاعتوں میں حضرت کی شخصیت اور دینی دعوت کے ستعلقہ اپنے تاثرات تکھے اور حضرت کی دعوت اصلاح و تبلیغ کی عظمت و اہمیت اور اس کی سنجیدگی کا اعتراف اس طرح کیا کہ جس کی توقع آج کل کے کسی ایڈیٹر اور لیڈر سے نہیں کی جا سکتی۔

الہلال کے وہ پرچے مجھے ایک جگہ سے مل گئے۔ حافظ صاحب کے وہ مضاہین پڑھ کر مجھے بڑی خوشی ہوئی اور میں نے ارادہ کیا کہ میں حضرت کو بھی سناؤں گا چنانچہ وہ پرچے ہاتھ میں لئے کسی مناسب وقت میں اس امید کے ساتھ حاضر خدمت ہوا کہ حضرت ہاتھ میں پرچے دیکھ کر خود ہی دریافت فرمائیں گے کہ ما تھیں کیا ہے تو مجھے کچھ عرض کرنے کا اور ان مضاہین کے سانے کا موقع مل جائے گا۔

لیکن میری توقع اور آرزو کے فلاں حضرت نے کچھ پوچھنا ہی نہیں، دبتر تک استھان کے بعد مجھے سے نہ رہا گیا اور میں نے

عرض کیا کہ حضرت افلان رن بمبئی کے حافظ علی بھادر خاں صاحب جو تشریف لائے تھے وہ الحمد للہ بہت ہی متاثر ہو کر گئے اور انہوں نے اپنے اخبار میں ہمارے کام کے متعلق چند مضاہین لکھے ہیں جن میں کام کی عظمت و اہمیت کا انہوں نے بہت اعتراف کیا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ خوب سمجھا ہے اگر ارشاد ہوتا ہے میں سے ایک آدھہ مضمون سنادوں۔ فرمایا امولوی صاحب اجوہ کام ہو چکا ہے اس کا کیا ذکر کرنے ہے — بس یہ دیکھو کہ جو کچھ ہم کو کرنا تھا اس میں سے کیا باقی رہ گیا اور جو کچھ کیا جا چکا اس میں کتنی اور کیسی گیسی کوتا ہیاں ہوئی۔ اخلاص میں کتنی کمی رہی اللہ تعالیٰ کے امر کی عظمت کے روایات میں کتنا تصور ہوا۔ آدابِ عمل کے تقدیمیں اور اُسرہ نبویٰ کے اتباع کی کوشش میں کتنا نقمان رہا۔ امولوی صاحب اان امور کے بغیر پہلے کام کا ذکر مذاکرا اور اس پر خوش ہونا بس ایسا ہے جیسے راستہ چلنے والا سفر کھڑا ہو کر بچھے کے جانب دیکھنے لگے اور خوش ہونے لگے۔ پھر کام کی صرف کوتا ہیاں تلاش کرو اور ان کی ملائی کی فکر کرو اور آندہ کے لئے سوچو کہ کیا کرنا ہے۔

یہ مدت دیکھو کہ ایک شخص نے ہماری بات سمجھلی اور اعتراف کر لیا بلکہ اس پر غور کر دکہ ایسے کتنے لاکھ اور کتنے کروڑ باقی ہیں جن کو ہم ابھی اللہ کی بات پہنچا بھی نہیں سکے اور کتنے ہیں جو واقفیت اور اعتراف کے بعد بھی ہماری کوششوں کی کمی کی وجہ سے عمل پر نہیں پڑے ہیں۔

کیونکہ وہی اصل اور جڑ ہو سکتے ہیں۔

۱۹۸ فرمایا۔ انسوس اجو لوگ دین کے لئے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اور دین کے معاملے میں بالکل ہی غافل اور پسمند ہیں ہم ان کو دیکھ دیکھ کے اپنی ذرا سی سعی و حرکت پر قانع اور مطمئن ہو جلتے ہیں اور سمجھنے لگتے ہیں کہ ہم اپنا حق ادا کر رہے ہیں حالانکہ چاہیئے یہ کہ اللہ کے ہبہ بندوں نے دین کیلئے اپنے کو بالکل مٹایا تھا ہم ان کے نمونوں کو نظر کے سامنے رکھ کے ہمیشہ اپنے کو مقصر سمجھتے رہیں اور جتنا کردے ہیں اس سے زیادہ کرنے کے لئے ہر وقت حریص اور مضطرب رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حرص رہتی تھی کہ کسی طرح دین کی خدمت میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام پالیں۔

۱۹۹ فرمایا۔ تبلیغ کے آراب میں سے یہ ہے کہ بات بہت لمبی نہ ہو اور شروع میں لوگوں نے صرف اُتنے عمل کا مطالبہ کیا جائے جس کو وہ بہت مشکل اور بڑا بوجھ نہ سمجھیں۔ کبھی کبھی لمبی بات اور لمبا مطالبہ لوگوں کے اعراض کا باعث بن جاتا ہے۔

۲۰۰ فرمایا۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس پہنچا ریئے کانا تم تبلیغ سے یہ بڑی غلط فہمی ہے، تبلیغ یہ ہے کہ اپنی صلاحیت اور استعداد کی حد تک لوگوں کو دین کی بات اس طرح پہنچائی جائے جس طرح پہنچانے سے لوگوں کے ماننے کی امید ہو۔ انبیاء علیہم السلام یہی تبلیغ لا رکھتے ہیں۔

۲۰۱ فرمایا۔ فضائل کا درجہ سائل سے پہلے ہے، فضائل سطح عالی کے اجر پر تلقین ہوتا ہے جو ایمان کا مقام ہے اور اسی سے آدمی عمل کے لئے

۱۹۲ فرمایا۔ نماز کو حدیث میں "یَعْمَادُ الْيَوْمَ" (دین کا ستون) فرمایا گیا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ نماز پر باقی دین متعلق ہے اور روز نماز ہی سے ملتا ہے۔ نماز میں دین کا تلفظ بھی ملتا ہے اور توفیق عمل بھی عطا ہوتی ہے۔ پھر جیسی کسی کی نماز ہوگی ویسی ہی اس کے حق میں عطا بھی ہوگی۔ اس لئے نماز کی دعوت دینا اور لوگوں کی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کرنا بالواسطہ پورے دین کے لئے سعی کرنا ہے۔

۱۹۵ فرمایا۔ جو کام عوام مختصین سے لیا جا سکتا ہے اور اس سے ان مختصین کے درجہ اور اجر میں ترقی کی توقع ہوا اور ان سے نہ لینا اور اس کو خود کرنا ان مختصوں کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے بلکہ ان پر ایک طرح کا فلم ہے اور اللہ کے نہایت کریم نماز قانون "أَبَدَ الْخَيْرِ كَفَاعِلُهُ" کی ناقداری ہے۔

۱۹۶ فرمایا۔ بھی دین پر عمل پڑتے تفہیم کو چاہتا ہے۔

۱۹۴ فرمایا۔ یہ نہایت اہم اصول ہے کہ ہر طبقہ کو دعوت اسی چیز کی دی جائے جس کا حق ہونا اور ضروری ہونا وہ خود بھی مانتا اور عسل میں کوتا ہی کوا پسی کوتا ہی سمجھتا ہو، جب وہ طبقہ ان چیزوں پر عمل کرنے لگے کا تو اگلی چیزوں کا احساس انشاء اللہ خود بخوبی پیدا ہو گا اور ان کی ادائیگی کی استعداد بھی پیدا ہوگی۔

۱۹۶ فرمایا۔ جو جتنے زیادہ اہل حق ہیں ان میں اُتنے ہی زیادہ کام اور کوشش کی ضرورت ہے۔ ان کا دین کے لئے اٹھنا بہت ضروری ہے۔

آمادہ ہوتا ہے۔ مسائل معلوم کرنے کی ضرورت کا احساس تو تب ہی ہو گا جب وہ عمل پر تیار ہو گا۔ اس لئے ہمارے نزدیک فضائل کی اہمیت زیاد ہے۔

(۲۰۲) فرمایا۔ ملیخی جماعتوں کے نصلیٰ تعلیم کا ایک اہم حصہ جو یہی ہے۔ قرآن شریف اچھی طرح پڑھنا بڑی ضروری چیز ہے۔

"مَا أَذِنَ اللَّهُ لِشَيْءٍ إِمَّا أَذِنَ لِنَبِيٍّ يَتَغْنَىٰ بِالْقُوَّانْ"
تجوید دراصل وہی تغثیٰ بالقرآن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہو کر ہم تک پہنچی ہے۔

یکن تجوید کی تعلیم کے لئے جتنا وقت در کارہے، جماعت میں اُتنا وقت نہیں مل سکتا، اس لئے ان ایام میں تو صرف اس کی کوشش کی جائے۔ ک لوگوں کو اس کی ضرورت کا احساس ہو جائے اور کچھ مناسبت ہو جائے۔ اور پھر اس کو سیکھنے کے لئے وہ ستقل رقت صرف کرنے پر آمادہ ہو جائیں۔

(۲۰۳) فرمایا۔ دوسروں کو دین کی دعوت اور ترغیب دینا سری عبادت ہے۔ یونہد عالم لوگ اس کو عبادت نہیں سمجھتے اور اس میں اعلیٰ درجہ کا تعداد یہ بھی ہے جو جہری عبارتوں میں خیر کا خاص پہلو ہوتا ہے۔

(۲۰۴) فرمایا۔ بزرگوں کی خدمت کا مقصد دراصل یہ ہوتا ہے کہ نکے جو علمی اور معمولی کام دوسرے لوگ انجام دے سکتے ہوں وہ ان کو اپنے ذمہ لیں تاکہ ان کے اوقات اور ان کی تقویں ان بڑے کاموں کے لئے فارغ رہیں جو دھی اکابر انجام دے سکتے ہیں مثلاً کسی شیخ وقت یا کسی عالم و مفتی کے وہ عمومی کام آپ اپنے ذمہ لے لیں جو آپ کے بس کے ہیں۔ اور ان کو ان کی طرف سے

فارغ اور بنے فکر کر دیں۔ تو وہ حضرات دین کے جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں (مثلاً اصلاح و ارشاد اور درس و اقتاء وغیرہ) تو وہ زیارہ اٹھیں اور یک سوئی سے ان کو انجام دے سکیں گے، اور اس طرح یہ خدام ان کے ان بڑے کاموں کے اجر میں حصہ دار بن جائیں گے۔ تو دراصل بڑوں کی خدمت ان کے بڑے کاموں میں شریک ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔

(۲۰۵) فرمایا۔ حقیقی محبت کا انتہا یہ ہوتا ہے کہ محبت اور عبور کے جذبات اور خواہشات تک میں کامل اتحاد ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی مولانا محمد حبیبی صاحب (ترجمۃ اللہ علیہ) کا یہ حال تھا کہ باوجود ریکہ وہ خانقاہ سے دور رہتے تھے لیکن بار بار ایسا ہوتا کہ اپنے ان کے دل میں خانقاہ جانے کا تقاضا پیدا ہوتا اور وہ فوراً جل دیتے اور جب دروازہ کھولتے تو حضرت گنگوہی (قدس سرہ) کو انتظار میں بیٹھا پاتے۔ فرمایا

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جب کسی بندہ کو سچی محبت ہو جاتی ہے تو پھر ہی معاملہ اللہ پاک کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ اس کی مرضیات بندہ کی مرضیات ہو جاتی ہے اور اس محبت کے پیدا کرنے کا طریقہ ہے اسوہ محمدی کاشتائی (قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِيطُونَ اللَّهَ فَإِنِّي عُوْنَىٰ يُحِبِّكُمُ اللَّهُ)

(۲۰۶) جو لوگ دین دار اور دین داں ہونے کے باوجود دین کے فرع کے لئے اور امت کی اصلاح کے لئے وہ جدوجہد نہیں کرتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا تقاضا ہے، ان کے بارے میں ایک روز حضرت کی زبان سے نکل گیا کہ "ان لوگوں پر بڑا حمّ آتا ہے"۔ اس کے بعد دیر تک اور مسلسل

استغفار فرماتے ہے۔ پھر اس عاجز سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا۔
”میں نے یہ استغفار اس پر کیا ہے کہ میری زبان سے یہ دعوے کا
کام نکل گیا تھا کہ مجھے ان لوگوں پر رحم آتا ہے۔“

(۲۰۷) فرمایا — مسجدیں، مسجدِ نبویؐ کی بیٹیاں ہیں اس لئے ان میں
وہ سب کام ہونے چاہئیں جو حضورؐ کی مسجد میں ہوتے تھے جحضور صلی اللہ علیہ وسلم
کی مسجد میں نماز کے علاوہ تعلیم و تربیت کا کام بھی ہوتا تھا اور دین کی دعوت
کے سلیے کے سب کام بھی مسجد ہی سے ہوتے تھے۔ دین کی تبلیغ یا تعلیم کے لئے
وفود کی روائی بھی مسجد ہی سے ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ عساکر کا نظم بھی مسجد ہی
سے ہوتا تھا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں بھی اسی طریقہ پر یہ سب کام
ہونے لگیں۔

(۲۰۸) فرمایا کہ — صحیح طریقہ کارہت کے کوکام نازل درجہ کے لوگوں سے
لیا جا سکتا ہو وہ انہیں سے لیا جائے۔ ان سے ما فوق کے لوگوں کا اس میں
لگنا جب کہ نازل درجہ کے کام کرنے والے بھی نصیب ہوں، بڑی غلطی ہے بلکہ
ایک طرح کا کفر ان نعمت اور نیچے درجے والوں پر ظلم ہے۔

(۲۰۹) فرمایا — دین کی دعوت کا اہتمام میرے نزدیک اس وقت اتنا
ضروری ہے کہ اگر ایک شخص نماز میں مشغول ہوا اور ایک نیا آدمی آئے تو وہ اپس
جلنے لگے اور پھر اس کے ہاتھ آنے کی توقع نہ ہو تو میرے نزدیک نماز کو درمیان
میں توڑ کے اس سے درینی بات کر لیتی چلے گی، اور اس سے بات کر کے یا اس کو
روک کے اپنی نماز پھر سے پڑھنی چاہیے۔

(۲۱۰) اسی سلسلہ میں فرمایا — میری چیخت ایک عام مومن سے اونچی
نہ سمجھی جائے۔ صرف میرے کہنے پر عمل کرنا بدل دینی ہے میں جو کچھ ہوں اس کو
کتاب و سُنت پر پیش کر کے اور خود غور و نکر کر کے اپنی ذمہ داری پر عمل کرو
میں تو بس مشورہ دیتا ہوں۔

فرمایا — حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے
تھے کہ ”تم نے میرے تربیت بڑی ذمہ داری ڈال دی ہے، تم سب میرے اعمال
کی نگرانی کیا کرو۔“

میرے بھی اپنے روستوں سے بڑے اصرار اور الحجاج سے یہ درخواست
ہے کہ وہ میری نگرانی کریں، جہاں غلطی کروں وہاں فوکیں اور میرے رشد و
سداد کے لئے دعا بھی کریں۔

(۲۱۱) فرمایا — کسی کام میں استغفال اس کے علاوہ اور بہت سی
چیزوں سے اعراض کو مستلزم ہوتا ہے، یعنی جب استغفال فی شئی ہو گا تو استغفال
عن اشیاء ضرور ہو گا اور بھی جس درجہ کا استغفال فی شئی ہو گا تو وہ سری چیزوں کے
اہتمام میں اسی درجہ کی کمی بھی ہو گی۔ شریعت میں جو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہر
اچھے سے اچھے کام کے ختم پر بھی استغفار کیا جائے۔ میرے نزدیک اس میں
ایک راز یہ بھی ہے کہ شاید اس اچھے کام میں مشغولی اور رانہماک کی وجہ سے
کسی دوسرے امر کی تعییل میں کوتاہی ہو گئی ہو۔ خاص کر جب کسی کام کی لگن میں
دل لگ جاتا ہے اور دل و دماغ پر وہ کام چھا جاتا ہے تو پھر اس کے ماسوا
دوسرے کاموں میں بسا ارتقات تقصیر ہو جاتی ہے۔ اس لئے ہمارے اس کام

میں لگنے والوں کو خصوصاً کام کے نہاد میں اور کام کے خاتمه پر استغفار کی کثرت اپنے اوپر لازم کر لینی چاہیے۔

(۲۱۲) فرمایا — علماء سے کہتا ہے کہ ان تبلیغی جماعتوں کی چللت پھرست اور محنت و کوشش سے عوام میں دین کی صرف طلب اور قدری پیداگی جاسکتی ہے اور ان کو دین سیکھنے پر آمادہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ آگے دین کی تعلیم و تربیت کا کام علماء و صلحی اور کی توجہ فرمائی ہی سے ہو سکتا ہے اس لئے آپ حضرات کی توجہات کی بڑی ضرورت ہے۔

(۲۱۳) نسی سلسلہ میں ہمدرد حاضر کے ایک مشہور صاحب علم اور صاحب قلم خادمِ دین کا ذکر ہے۔ جن کی بعض عملی کمزوریوں کی بنا پر خاص ریندار حلقوں کو ان پر اعتراض ہے تو فرمایا۔

”میں تو ان کا قدر دان ہوں اگر ان میں کوئی کمزوری ہو تو میں اس کا علم بھی حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ یہ معاملہ اللہ کلے۔ شاید ان کے پاس اس کا کوئی عذر ہو، ہم کو تو عام حکم یہ ہے کہ دعا ہیں کرو لَا تجعل فی قُلُوبِ اَغْنِيَّةَ اللَّهِ يُؤْمِنُ اَهْنُوا۔“

(۲۱۴) بنیاب کے ایک بڑے مشہور عالم اور بزرگ (جن سے اس عاجز مرتب ملفوظات کو بھی شرف نیاز حاصل ہے) دہلي تشریف لائے ہوئے تھے۔ یہ عاجزان کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت مولانا کی دینی دعوت کا اور اس کے اصول اور طریق کار کا کچھ تفصیل سے تذکرہ کیا اور اپنے قدیم

نیازمندان تعلقات کی بنابری ان کو ترغیب دی اور استدعا کی کوہ اس دینی دعوت کے متعلق مزید واقفیت حاصل کرنے کے لئے کچھ وقت اس کام کے ہر کو نظام الدین میں گزاریں۔ دعوت کے اصول اور طریقہ کار اور کام کی رفتار کے متعلق میری گزارش سننے کے بعد انہوں نے بڑے تاثر کاظمیا کیا اور فرمایا کہ اس وقت تو طویل قیام نہیں کر سکتا، حرف تین چار دن کے لئے آیا ہوں اور حضرت مولانا بھی بیمار ہیں۔ لہذا اس وقت تو میں صرف زیارت کے لئے حاضر ہوں گا، لیکن میں نے نیت کر لی ہے کہ جب مولانا کو صحبت ہو جائے گی اور وہ کوئی اہم تبلیغی دورہ فرمائیں گے تو انشا اللہ میں اس میں ساتھ رہ کر دیکھوں گا۔

یہ عاجز جب دہلي شہر سے بستی نظام الدین والپ آیا اور حضرت کو یہ پوری لگتگو سنائی تو ارشاد فرمایا۔

”شیطان کا یہ بہت بڑا دھوکا اور فریب ہے کہ دہستقبل میں بڑے کام کی امید بندھا کر اس چھوٹے خیر کے کام سے روک دیتا ہے جو فی الحال ممکن ہوتا ہے۔“ (جاتا ہے کہ بندہ اس وقت جو خیر کر سکتا ہے کسی حیلہ سے اس کو اس سے ہٹا دے اور اس داؤ میں وہ اکثر کامیاب ہو جاتا ہے پھرستقبل میں آرمی جس بڑے کام کی امید باندھتا ہے با اوقات اس کا وقت ہی نہیں آتا۔

بڑے کاموں کی اسیدیں اکثر ضائع ہی ہوتی ہیں۔ اور اس کے برخلاف جو خیر
فی الحال ممکن ہو اگرچہ وہ جھوٹ سے جھوٹا ہی ہو اس میں لگنا اکثر بڑے کام
تک پہنچنے کا سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ اس لئے عقائدی یہ ہے کہ جو خیر
جس وقت جتنا مستلزم ہے۔ اس پر تو اسی وقت عمل کر لیا جائے اور فرصت سے
فوری فائدہ اٹھالیا جائے۔ ان صاحب کو چاہیئے کہ وہ پھر پر زر کھیں
اس وقت جتنا ممکن ہو وقت ریدیں اور میری بیماری کا بالکل خیال نہ کریں۔
کسی کو کیا خبر اس بیماری میں صحت سے بد رجہ بازیادہ کام ہو رہا ہے بہاں آئے
کا یہی خاص وقت ہے

اللَّهُ كَانَ نَا إِيْسَا هُوَ وَدْ بِنْزَرْگِ اس وقت قِيَامَ نَه
كَر سَكَے اور مستقبل کے متعلق انہوں نے جوازادہ کیا تھا وہ
بھی پورا نہ ہوا اور چند ہی روز بعد حضرت مولانا کاوصال
ہو گیا۔ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى رَحْمَةُ الْأَبْرَارِ الرَّصَادُ الْحَسِينُ۔



آئکی خدمت میں شام کا مطبوعات

مدنی گرتنے کا رجسٹریشن پاکستان